

سِرِّ الشُّرَكَائِينَ

تخریج شدہ

مصنف:
شہادۃ العزیز محدث دہلوی

ترجمہ تخریج و تحقیق

ابوالخیر محمد امجد علی

نوریہ رضویہ پی ای کیشنز

سِرِّ الشَّادَتَيْنِ

اُردو

تخریج شدہ



مصنف:
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ تخریج و تحقیق

ابوالجناح مکی کلامی سدا اچھا بیکارٹی



مکتبہ برکاتیہ

دیپالپور روڈ، الہ آباد، ٹھینگ موڑ، ضلع قصور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	—	”سرالشہادتین (مترجم و تخریج شدہ)“
نام مصنف	—	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ و تحقیق و تخریج	—	مولانا ابوالحکام محمد احمد برکاتی
ناشر	—	نوریہ رضویہ پبلی کیشنز، لاہور
طباعت اول	—	نومبر 2012ء
تعداد	—	1100
مطبع	—	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز، لاہور
کمپیوٹر کوڈ	—	1N0149
قیمت	—	130 روپے

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

11- گنج بخش روڈ، لاہور

فون: 042-37313885-042-37070663

Email: nooriarizvia@hotmail.com

مکتبہ نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد

فون: 041-2626046

مکتبہ برکاتیہ دیپالپور روڈ الہ آباد (ٹھینگ موڑ) ضلع تصور

فون: 0300-4746132

فہرست مضامین

نمبر شمار	موضوعات	صفحہ
1	چند غور طلب باتیں	7
2	انبیائے کرام اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	11
3	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت	12
4	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت حسین کریمین کا حقیقی فلسفہ	13
5	شہادت حسین کریمین اور حقائق	15
6	جنتی جوانوں کے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار	17
7	حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور پیدل حج	23
8	شہادت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ	25
9	واقعات شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ	28
10	شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سبب	28
11	حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کی روانگی کوفہ	29
12	عبید اللہ بن زیاد کا تقرر بطور گورنر کوفہ	30
13	عبید اللہ ابن زیاد اور سازشیں	30
14	عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جنگ کا باقاعدہ آغاز	31

31	حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اور تنہائی	15
32	حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اور جنگ کا میدان اور شہادت معہ صاحبزادگان	16
33	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے کوفہ روانگی	17
33	شہادت مسلم رضی اللہ عنہ کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو	18
34	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حر کی آمد	18
35	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں آمد	20
36	بائیس ہزار یزیدی فوج کربلا میں	21
36	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور جنگ کی تیاری	22
37	حر کی یزیدی فوج سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں آمد	23
37	جنگ کا مروج اور اہل بیت رسول کی شہادتیں	24
38	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کے جہاد کے جوہر	25
38	شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ	26
39	شہدائے اہل بیت میں سے چند ایک کے نام	27
40	شہداء کے سروں کو بعد از شہادت تنوں سے جدا کرنا	28
41	حضور ﷺ کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبریں عطا فرمانا	29
41	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ	30
42	حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ	31
43	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ	32

45	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مزید روایت	33
46	حضرت انس رضی اللہ عنہ اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ	34
47	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک اور روایت	35
48	شمر لعین ابلق کتا	36
49	جہاد کر بلاء میں صحابہ کی شرکت	37
50	حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ	38
50	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا حضرت امام حسین کو کوفہ روانگی سے روکنا	40
52	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یقین	41
52	حضرت مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کربلا اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ	42
54	شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ کا انتقام	43
55	حضور منیٰ ﷺ کا حضرت ابن عباس کو شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر دینا	44
57	حضور منیٰ ﷺ کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر دینا	45
58	شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد آسمان سے خون ٹپکنا	46
59	شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد بیت المقدس کے پتھروں سے خون	47
60	شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اندھیرا اچھانا	48
60	شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزیدی لشکر کے گوشت میں زہر بھری کڑواہٹ	49
61	شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ پر آسمان کا رونا	50
62	قاتلانِ حسین پر دنیا میں عذاب	51

63	شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ پر جنوں کا رونا اور اشعار پڑھنا	52
64	شہادت حسین رضی اللہ عنہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جنوں سے اشعار سننا	53
65	سر حسین رضی اللہ عنہ کی نیزہ پر تلاوت	54
66	قاتلان حسین کے لئے غیب سے قلم کا ظہور بغرض وارنگ	55
69	حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرالشہادتین کا عربی متن	56
111	مآخذ مراجع	57

چند غور طلب باتیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ - آمَّا بَعْدُ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم المرتبت

ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کے لئے اپنی

خدمات جلیلہ عمر بھر پیش کئے رکھیں اور اپنی انتھک محنت سے اسلام کو

دیار ہند میں جلا بخشی اور یوں اسلام کی آبیاری میں اپنا حصہ شامل کیا۔ آپ

نے پرچم اسلام کو مواعظ حسنہ کی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تحریری

میدان میں بھی گراں قدر خدمات سے سر بلند رکھنے کے لئے پوری ہمت

اور جرأت سے کام لیا۔ اس سلسلہ میں آپ کی فتاویٰ عزیزی اور قرآن

پاک کی تفسیر فتح العزیز اور تحفہ اثناء عشریہ کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے

اس کے ساتھ ساتھ محققانہ انداز میں اپنی ایک تحقیقی کاوش ”سرالشہادتین“

کے نام سے موسوم کر کے آنے والی نسلوں کے لئے ایک تحقیقی کارنامہ سرا

نجام دیا ہے اور اسے اس کے نام کی حقیقی تصویر بنا دیا ہے۔ اور یقیناً دریا کو

کوزے میں بند کر کے اپنی تحقیقی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کتاب حضرات

حسین کریمین کی شہادتوں اور ان کے متعلقہ بیانات سے مزین ہے۔ آ

پ کی اس تحقیق سے بے موسمے مینڈک جو کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض سرّاً اور کبھی کبھی جہراً کرتے ہوئے حب اہل بیت کو شیعیت کا نام دیتے ہیں اور یزید لعین کو ملفوف طور پر ہیرو بنانے کی جسارت کرتے ہیں نیز یہ کہ یزید لعین کو کبھی ”رحمۃ اللہ علیہ“ اور کبھی ”رضی اللہ عنہ“ جیسے پاکیزہ کلمات کا اپنے زعمِ باطل میں حقیقی مصداق بنانے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں ان عناصر کے لئے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر یقیناً غور طلب ہے۔ خصوصاً حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندازِ بیان سے جس طرح احادیثِ طیبہ سے تشریحی انداز میں حقائق پیش کئے ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔

والد محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد علی برکاتی صاحب نے حکم فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب پر کام کرو اس سلسلہ میں استاذ العلماء والحکماء حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اسماعیل صاحب نقشبندی نے کامل شفقت سے راقم الحروف کو ”سرالشہادتین“ کا نسخہ عطا فرمایا تو ان کے ارشاد کے مطابق راقم الحروف محمد احمد برکاتی نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیقی کاوش کو عامۃ الناس کے ہاتھوں پہنچانے کی غرض سے ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید یہ کہ استاذ المناظرین محقق دوراں حضرت علامہ پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب سے ضروری مشاورت بھی حاصل کی۔ اس کے

ساتھ ساتھ چوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محدثانہ انداز میں صرف متعلقہ محدث اور راوی اول کا نام ہی ذکر کیا ہے لہذا راقم الحروف نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کاوش کی توثیق کے لئے تخریج کا کام کر دیا ہے اور اس کتاب میں راقم الحروف کے پیش کردہ حوالہ جات کی تعداد پونے چار سو کے قریب ہے اور یہ تقریباً چھبیس کتب میں سے منتخب کئے گئے ہیں۔ کیوں کہ اس سے پہلے راقم نے اپنی کتب ”لمعات مصطفیٰ“، ”شب برات کے دلائل و فضائل“ وغیرہما کی تخریج کی ہے لہذا یہ تجربہ بھی کا آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعراب کا کام ہو گیا ہے تاکہ عام قاری بھی ان عربی عبارات کا حظ اٹھا سکے جو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہیں۔ مزید برآں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے عنوانات کا قائم نہیں فرمائے بلکہ اس کو تسلسل کے ساتھ ایک ہی ردھم میں تحریر فرمایا ہے اس لئے عام قاری کے لئے سہولت پیدا کرنے کی غرض سے راقم الحروف نے اس کے لئے مختلف ابواب قائم کئے ہیں تاکہ متعلقہ مسئلہ تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عربی تحریر بھی پیش کر دی ہے تاکہ جو چاہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اصل عبارت کی طرف بھی رجوع کر لے۔ البتہ مزید آسانی کی غرض سے نہ صرف اردو ترجمہ میں حوالہ جات لگائے ہیں بلکہ تقریباً وہی حوالہ جات عربی متن میں بھی لگائے دیئے ہیں تاکہ بار بار

ورق لٹنے اور حوالہ جات تلاش کرنے کا تکلف نہ کرنا پڑے۔

واضح رہے کیوں کہ حوالہ جات راقم الحروف نے دیئے ہیں اس لئے ان کے ساتھ ”تخریج برکاتی“ کا نام دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو التباس نہ ہو۔

کیوں کہ ماہِ محرم الحرام شریف کی آمد آمد ہے اس لئے اس کتاب کو تعجیل سے آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کی اس لئے عین ممکن ہے کہ کمپوزنگ وغیرہ میں کہیں کوئی فرق آگیا اس کے لئے قارئین سے اعتذار کرتے ہوئے بہتر اور مفید مشاورت کی رجاء و امید کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کاوش کو عفوِ عصیاں اور آلِ نبی کی نظر عنایت اور ان کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ اور مزید یہ کہ اے اللہ رب العزت جو اہل بیت سے حقیقی محبت کرتے ہیں انہیں برزحشر حضرات حسنین کریمین کے پرچم کے نیچے جگہ عطا فرما اور جو یزید سے محبت کرتے ہیں ان کا یزید سے محبت کرنے والوں میں حشر فرما۔

آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم

لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة

المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمة

اگر دعوة رد کنی و قبول

منو دست دامن آل رسول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انبیائے کرام اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے خوب جان لو کہ بے شک انبیائے کرام علیہم السلام میں جو کمالات اور خوبیاں جدا جدا ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں یکجا فرمادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو، بادشاہی جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حُسن جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو، خُلت جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، کلام جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، عبادت جیسی کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو، شکر جیسا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا اس سے کہیں زیادہ کمالات اور دیگر اقسام ولایات، مستقل اور مکمل شانِ محبوبی اور کامل شانِ مصطفائی اور انتہائی قریب سے مکمل دیدار الہی، شفاعتِ عظمیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرنا اور اس قسم سے ہٹ کر بھی دیگر کمالات جیسا کہ وسعتِ علم، مکمل عرفانِ خداوندی، قوتِ فیصلہ، اور ہر معاملہ میں شرعی حکم بیان فرمانا، اجتہاد، شرعی حکم کے خلاف چلنے والوں کا حساب فرمانا، قرأت اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بے شمار فضائل عطا فرمائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت

آپ کا ایک وصف ابھی باقی تھا جس کے حصول کا ابھی ظہور نہیں ہوا تھا اور وہ تھا آپ کے لئے شہادت۔ اصل میں اس کے بظاہر عدم حصول کا راز یہ تھا کہ اگر آپ میدان کارزار میں شہادت حاصل فرماتے تو اس سے شوکتِ اسلام کے کم ہونے کا اندیشہ تھا اور عامۃ الناس کی نظروں میں کجی پیدا ہو سکتی تھی اور اگر آپ عام حالات میں اچانک شہید ہو جاتے جیسا کہ آپ کے بعض خلفاء شہید ہوئے تو پھر شہادت مکمل طور پر ظاہر نہ ہوتی بلکہ وہ اکمل شہادت قرار نہ پاتی۔ کیوں کہ مکمل شہادت یہ ہے کہ آدمی مسافری اور سختی کی حالت میں مارا جائے اور اس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور اس کی لاش میدان میں پڑی رہے۔ اور اس کے ارد گرد بہت زیادہ لوگ، اس کے بہت سے معزز ساتھی اس کے رشتہ دار قتل ہوں، ان کا مال لوٹا جا رہا ہو، ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو یتیم اور قیدی بنایا جا رہا ہو اور یہ تمام کا تمام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو۔ (اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کم شہادت نہیں ہوتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شہادت ہوتی اور کسی دوسرے کی مذکورہ درجہ کی شہادت ہوتی تو پھر اس کی شہادت آپ کی شہادت سے اعلیٰ قرار پاتی) تو آپ کے میدان کارزار میں شہید نہ ہونے میں حکمت یہ تھی آپ کو اس سے بھی بڑا کمال مل جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دیگر تمام کمالات

کے ساتھ ساتھ آپ کے وصال کے بعد اور خلافت کے ایام گزرنے کے بعد بھی کمال عطا فرمانا ہے۔ وہ دور (یعنی دوزر رسالت مآب اور دور خلافت راشدہ) جو کہ ایسی مغلوبیت اور مظلومیت کے منافی تھا۔ وہ مغلوبیت اور مظلومیت جو کہ اہل بیت کے مردوں بلکہ وہ جو کہ آپ کے قرابتداروں میں سے سب سے زیادہ قریبی ہو اور وہ ان کے قرابتداروں میں سے ہو جائے جو کہ بیٹوں کے حکم میں ہو جو یہاں تک ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حال میں پہنچ جائے اور ان کا کمال حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہی کمال ثابت ہو۔

حضور ﷺ اور شہادتِ حسنین کریمین کا حقیقی فلسفہ

چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خلافت راشدہ کے ایام گزرنے کے بعد اس کمال کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک پہنچانے کے لئے ہوئی تو اس کام کے لئے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو ان کے نانا جان پر افضل درود اور رحمتیں ہوں، کی نیابت کا حقدار بنایا۔ ان شہزادوں کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت کا آئینہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حسن کے دو رخسار بنایا۔ کیونکہ شہادت کی دو اقسام ہیں شہادتِ سری اور شہادتِ اعلانیہ۔ اور یہ دونوں اقسام ان دونوں شہزادوں میں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ بڑے نواسے کو پہلی قسم کے ساتھ مخصوص کیا گیا جس کا معاملہ چھپا رہا اور اس کا ذکر وحی میں ظاہر نہ ہوا اور اس شہادت کے واقع ہونے کے وقت

ان کا معاملہ مبہم ہی رہا یہاں تک کہ وہ معاملہ ان کی زوجہ کے ہاتھوں ہوا جب کہ بیوی جس سے عداوت کی بجائے محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ تمام کا تمام راز اور پوشیدگی سے ہوا اور پھر یہ بھی خود حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کی خبر نہیں دی تھی اور نہ ہی امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دی تھی اور نہ ہی کسی اور نے دی تھی۔

چھوٹے شہزادے دوسری قسم کے ساتھ مخصوص ہوئے جس کی بنیاد اپنے معاملہ کے ساتھ شہرت اور اس اعلان پر ہے جو کہ ابتداء میں وحی کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے علاوہ دیگر فرشتوں کی زبان پر ہوئی پھر اس جگہ کے تعین سے اور اس جگہ کے نام سے، اور وقت کے بھی تعین سے جو ساٹھ ہجری کی انتہاء ہے۔ پھر اس واقعہ کی بہت زیادہ شہرت اور اس کے ذکر کا حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی زبان پر صفین کے سفر پر جاتے ہوئے جاری ہونا۔ پھر جب شہادت کا واقعہ مشہور ہوا تو اس کی شہرت مٹی کے خون بننے، آسمان سے خون برسنے، غیبی آوازوں کے دردناک اشعار جنات کے نوحے، ان کا رونا، درندوں کا ان کے شہید جسموں کے گرد گھومنا اور ان کی حفاظت کرنا، سانپوں کا ان کے قاتلوں کے نتھنوں میں گھس جانا اور اس کے علاوہ اور بہت سے اسباب جن کی بناء پر یہ واقعہ مشہور ہوا۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ہر موجود اور غائب اس جائزہ واقعہ سے آگاہ ہو جائے۔ بلکہ رونا باقی رہے اور رنج و غم

جاری رہے اور یہ کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت میں اس دردناک واقعہ کے مصائب کا تذکرہ ہوتا رہے۔ پس شہادت کی یہ قسم عرش کے فرشتوں، زمین کی آخری تہہ تک، عالم غیب میں، عالم موجود میں، جنوں میں، انسانوں میں، بولنے والی مخلوقات، خاموش رہنے والی مخلوقات میں شہرت کی انتہاء تک پہنچ گئی۔

اس مقدمہ کی تمہید قائم ہونے کے بعد ہم اس باب کے متعلقہ تمام باتیں جن کا ہم نے تمہید میں تذکرہ کیا ہے، انہیں بیان کرتے ہیں۔

شہادتِ حسنین کریمین اور حقائق

ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں صاحب زادے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بیٹے شمار کئے جاتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں: پہلی وجہ یہ ہے کہ بیٹی کے بیٹے کے لئے بھی بیٹا ہونے کا ہی حکم لگایا جاتا ہے اسی لئے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں ہی شمار کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بذات خود انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا جو کہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور احمد نے اپنی مسند میں ابو اسحاق السبئی سے، ہانی بن ہانی اور انہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا کہ جب (حضرت امام) حسن (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور

ارشاد فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور اس کا کیا نام رکھا ہے؟۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ جب (حضرت امام) حسین (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور اس کا کیا نام رکھا ہے؟۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو ارشاد فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور اس کا کیا نام رکھا ہے؟۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر شبر، شبیر اور مشبر رکھے ہیں۔ اس روایت کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں، دارقطنی نے کتاب الافراد میں، حاکم، بیہقی اور ابن عساکر ان تمام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

بغوی اور طبرانی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔

۔ مؤطا امام محمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 631۔

- صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 409۔
- مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔
- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379۔
- مسند ابی زرعہ جلد نمبر 742۔
- المستدرک (خاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180+183۔
- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔
- الاحادیث المختارة (ضیاء مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180۔
- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 6 صفحہ 166 + جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 63۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 117۔
- البحر الزخار (مسند ابی زرعہ) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔
- مجمع الزوائد جلد (پیشی) نمبر 8 صفحہ نمبر 102۔
- موارد النعمان الی زوائد ابن حبان (پیشی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔
- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660۔
- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 119۔
- اسد الغابہ (ابن اثیر): ترجمہ حسن بن علی + ترجمہ حسین بن علی۔
- الاصابہ فی تمییز الصحابہ (عسقلانی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243۔
- بغیة الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6۔
- قاموس (عربی ڈکشنری) میں موجود ہے کہ شبر جیسے لفظ، شبر جیسے
 قلمبر اور مشبر جیسے محدث، یہ سب حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے
 نام تھے۔

جنتی جوانوں کے سردار اور حضور ﷺ مالک و مختار

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دیدار کرنے کے لئے آئینہ ہیں تو اس کی دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل یہ ہے جو کہ سیادتِ مُطْلَقَہ کی جہت سے حاصل ہے تو اس بارے میں نسائی، رویانی اور ضیاء مقدسی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ابو یعلیٰ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے، ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ابن عدی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت عمر رضی فاروق، حضرت جابر، حضرت براء، حضرت اسامہ بن زید، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہم سے، دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت ابورمثہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابن ماجہ نے یہ الفاظ زیادہ بیان کئے ہیں کہ ان کے والدین ان سے بہتر ہیں۔

﴿تخریج برکاتی﴾

سنن ابن ماجہ المقدمہ باب فضل علی بن ابی طالب۔

مشکل الاثار (طحاوی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 150۔ بیان مشکل باروی عن رسول اللہ ﷺ منی

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 209۔

- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔

- کنز العمال (علی متقی) حدیث نمبر 34259۔

- معجم ابن اعرابی حدیث نمبر 2266۔

- کشف الخفاء (العجلونی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔

- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 293۔

- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (ملا علی قاری) جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 34۔ ❀

طبرانی کے نزدیک الفاظ ہیں کہ ان دونوں کے والدین دونوں سے افضل ہیں اور حاکم اور ابن حبان اور ان دونوں محدثین کے علاوہ اور بھی کچھ محدثین نے یہ الفاظ بیان کئے ہیں کہ سوائے آپس کی خالوں کے بیٹوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کے۔
❀ تخریج برکاتی:

- مشکل الآثار (طحاوی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499۔

- سنن کبریٰ (نسائی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔

- حلیۃ الاولیاء (ابو نعیم) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔

- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374۔

- ابن عساکر جلد نمبر 64 صفحہ نمبر 192۔

- صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 411۔

- فردوس الاخبار (دیلمی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔

- اسد الغابہ (ابن اثیر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔ (حسن بن علی)

- شرح مذاہب اہل السنۃ (ابن شاہین) حدیث نمبر 175۔

- فضائل الخلفاء الراشدین (ابو نعیم) حدیث نمبر 130۔

- تفسیر درمنثور (سیوطی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 489۔

- البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61۔ ﴿

ان تمام روایات سے ان کا آئینہ ہونے کی وضاحت ہے کہ ان دونوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت اور ان سے دشمنی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دشمنی ہے۔ جیسا کہ ابن عساکر وغیرہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔

﴿تخریج برکاتی:

- مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔

- فضائل الصحابۃ (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 771۔

- سنن کبریٰ (نسائی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48۔

- مشکل الآثار (طحاوی) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 451۔۔

- مسند اسحاق بن راہویہ حدیث نمبر 211۔

- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29۔

- ذیل تاریخ بغداد (ابن نجار بغدادی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 132۔
- الکامل (ابن عدی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435۔
- البدلیۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223۔
- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔
- الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277۔
- تہذیب الکمال (مزنی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔
- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 119۔ ﴿

اور دوسری جہت صورتوں کی مشابہت سے ہے۔ یہ دونوں شکل و صورت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات مقدسہ کی ظاہری تصویر کی طرح تھے۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مشابہہ نہ تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مشابہہ تھے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب الحسن والحسین۔
- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 468۔
- تہذیب الاسماء (نووی) ترجمہ حسن بن علی بن ابی طالب۔
- فتح الباری (عسقلانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 127۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115۔ ﴿

اس حدیث کو ترمذی نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مشابہہ تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سینہ سے لے کر اس سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مشابہہ تھے۔

﴿تخریج برکاتی:

- سنن ترمذی کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین۔

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔

- مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔

- صحیح ابن حبان کتاب اخبارہ عن مناقب الصحابہ باب اخبارہ عن مناقب الصحابہ رجالہم

ونسأھم۔ - دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273۔

- الاحادیث المختارة (مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 183۔

- اسد الغابۃ (ابن اثیر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔

- البدلیۃ والنہالیۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 39۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 660۔

- موارد النظمآن (پیشی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 127۔

- الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبدالبر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 60۔ ﴿

ترمذی نے روایت کیا ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو پکڑا اور فرمایا کہ جو

مجھے دوست اور ان دونوں کو دوست رکھے گا اور ان کے والدین کو دوست

رکھے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا (ترمذی نے کہا کہ اس

حدیث میں کچھ ضعیف ہے)

﴿تخریج برکاتی﴾

- سنن ترمذی ابواب المناقب باب ذیل مناقب علی بن ابی طالب۔

- مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔

- فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 693۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 196۔

- الاحادیث المختارة (مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ 44۔

- کتاب الشفاء (قاضی عیاض) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔

- جامع الاصول (ابن اثیر) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6706۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 135۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95۔

- الریاض النضرۃ (محب طبری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 97۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 58۔ ﴿

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور پیدل حج

حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پندرہ پیدل حج کئے اور آپ اپنے گھوڑے کے آگے آگے چلتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال زندگی میں دو مرتبہ غرباء و مساکین میں تقسیم فرمایا، اور تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آدھا آدھا مال تقسیم فرمایا یہاں تک کہ آپ نے ایک جوتا دے دیا اور دوسرا رکھ لیا ایک موزہ دے دیا اور ایک رکھ لیا۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233۔

- صفۃ الصفوة (ابن جوزی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 760۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 137۔ ﴿

﴿نوٹ: بعض محدثین نے آپ کے پیدل پچیس حج کرنے کا ذکر بھی کیا ہے

ان کے کچھ حوالہ جات درج ذیل ہیں: برکاتی غفرلہ ﴿

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185۔

- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 242۔

- اخبار مکہ (فاکھی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396۔

- اتحاف الخیرۃ المھرۃ (بوصیری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔

- البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 42۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 166۔

- حیوۃ الحیوان الکبریٰ (دمیری) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- الصواعق المحرقة (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ ﴿

رانج قول کے مطابق آپ کا وصال انچاس سن ہجری میں ماہ ربیع

الاول کی ابتداء یا ماہ صفر کے اختتام پر ہوا۔ اور یہی مشہور ہے۔

شہادتِ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ

آپ کے وصال کا سبب یہ ہوا کہ آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشعث

بن قیس نے یزید بن معاویہ کی ایما پر آپ کو زہر دے دیا اس شرط پر کہ

یزید جعدہ سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دے دیا جس

سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ جس کے

اثرات چالیس دن تک رہے پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ جعدہ بنت

اشعث نے یزید کو شادی کا وعدہ پورا کرنے کا پیغام بھیجا۔ یزید نے جواباً کہا

کہ ہم حضرت حسن کے پاس تمہارے رہنے پر راضی نہ تھے اب تجھے اپنے

پاس بیوی کے طور پر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ پس وہ دنیا و آخرت میں کھلا خسارہ

پانے والی ہو گئی۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 284۔
- اسد الغابۃ (ابن اثیر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔
- الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبدالبر) صفحہ نمبر 115۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔
- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔
- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 169۔
- الصواعق المحرقة (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413۔
- سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل والتوالی (عصامی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔
- وفيات الاعیان (ابن خلکان) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔
- الوافی بالوفیات (الصفدی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 162۔ ﴿

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زہر سے مرض یہ ہوا کہ آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دستوں کی صورت میں نکلتا رہا۔ آپ کے وصال پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: جی ہاں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر میرا قاتل وہی ہے جسے میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت انتقام لے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے جس پر میرا گمان ہے تو میں کسی

بے گناہ کا قتل پسند نہیں کرتا۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر پلایا گیا
لیکن اتنا سخت زہر مجھے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پلایا گیا۔
﴿تخریج برکاتی﴾

- جامع معمر بن راشد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔
- مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 452۔
- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 476۔
- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 283۔
- الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبدالبر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔
- اسد الغابۃ (ابن اثیر) جلد (ابن الاثیر) نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔
- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193۔
- حلیۃ الاولیاء (ابو نعیم) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔
- صفۃ الصفوة (ابوالفرج عبدالرحمن جوزی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 761۔
- ذخائر العقبی (احمد بن عبداللہ طبری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 251۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔
- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 46۔
- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔
- الصواعق المحرقة (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔
- ریح الاربار (زنجیری) جلد نمبر صفحہ 1 نمبر 438۔ ﴿

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت
پینتالیس برس چھ ماہ اور کچھ دن تھی۔ جب کہ آپ کی ولادت صحیح روایت

کے مطابق شبِ برات تین ہجری میں ہوئی۔

﴿تخریجِ برکاتی﴾

۔ تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257۔ ﴿

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک ہوئی۔

یہ ہے معاملہ شہادتِ سرتی کا جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ والہ

وسلم کے بڑے نواسے مخصوص ہوئے۔

واقعاتِ شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

﴿نوٹ: چونکہ یہاں سے آگے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بطور

مؤرخ واقعہ کربلاء کا تذکرہ کیا ہے اس لئے ہم صرف چند ایک بنیادی

مآخذ ذکر کر رہے ہیں: برکاتی غفرلہ ﴿

۔ تاریخ الامم والملوک از محمد بن جریر طبری۔

۔ الکامل فی التاریخ از ابن الاثیر۔

۔ تاریخ ابن خلدون از ولی الدین محمد بن محمد ابن خلدون۔

۔ البدایہ والنہایہ از عماد الدین ابن کثیر۔

۔ تاریخ الخلفاء از جلال الدین سیوطی وغیرہم۔ ﴿

اور جہاں تک شہادتِ جہری جس کے ساتھ آپ کے بڑے نواسے

مخصوص ہوئے جو کہ کائنات کے مشہور ترین واقعات میں سے ایک واقعہ

ہے۔ اس واقعہ کے مشہور ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ شہادتِ جہری تھی۔

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بنیادی سبب

شہادتِ جہری کا سبب یہ ہوا کہ جب یزید بادشاہ بنا اور اس نے اقتدار سنبھال لیا اور یہ رجب سن ساٹھ ہجری میں دمشق میں حکمران بنا۔ اس نے اپنے زیر حکومت تمام علاقوں میں بیعت لینے کی غرض سے احکامات جاری کئے۔ اس نے اسی غرض سے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھی حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت لی جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیوں کہ وہ فاسق، شرابی اور ظلم کرنے والا تھا۔ اس لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار شعبان کو مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں پر آپ قیام پذیر ہو گئے۔ یہ خبر جب اہل کوفہ کو پہنچی تو ان میں سے بہت سے گروہوں نے اتفاق کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف تشریف لانے کے خط لکھے کہ آپ پر وہ اپنے مال اور جانیں قربان کر دیں گے اور اس بات میں انہوں نے بہت مبالغہ کیا۔ ان کے ایسے خطوط مسلسل آتے رہے اور یہ تعداد ڈیڑھ سو تک پہنچ گئی اور یہ خطوط کوفہ کے ہر گروہ کی طرف سے آتے رہے۔

حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کی روانگی کوفہ

چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مکمل مدد اور حمایت حاصل کرنے کی تاکید کی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو مختار بن عبید کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بارہ ہزار سے زائد لوگوں نے بیعت کی۔ اس صورت حال پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر اور صحابی رسول تھے انہوں نے لوگوں کو معاملات سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کوشش صرف لفظی حد تک محدود تھی اور انہوں کسی ایک پر بھی کوئی سختی نہ کی۔ اسی بناء پر مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور اہل کوفہ کے رویہ کے بارے میں لکھا نیز حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی اس معاملہ میں بے پراہی کے بارے میں بھی لکھا۔

عبید اللہ بن زیاد کا تقرر بطور گورنر کوفہ

چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بصرہ کا بھی گورنر تھا، کو گورنر مقرر کر دیا، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ روانہ ہوا۔ وہ رات کے وقت میں کوفہ میں حجازیوں کے

لباس میں داخل ہوا اور اس نے یہ دھوکہ دیا کہ وہ حضرت امام حسین ہے۔ لوگوں نے رات کی تاریکی میں اسے حضرت امام حسین سمجھ کر اس کا استقبال کیا لوگ اسے سلام کر رہے تھے اور وہ ان کے آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور لوگ یا ابن رسول اللہ مرحبا کہہ کر اس کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سیکرٹیریٹ میں داخل ہو گیا۔

ابن زیاد اور سازشیں

جب صبح ہوئی تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان پر اپنی حکومت کا تقریر نامہ پڑھ کر سنایا اور لوگوں کو یزید کی مخالفت کرنے سے ڈرایا دھمکایا۔ اس نے اپنے مکر اور چالوں سے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی۔ چنانچہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ گزیں ہو گئے۔

ابن زیاد کی طرف سے جنگ کا باقاعدہ آغاز

عبید اللہ بن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک بڑے فوجی دستے کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے گھر بھیجا وہ ہانی بن عروہ کو پکڑ کر لے آئے اس نے انہیں قید کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام رؤسائے کوفہ کو بھی ایک دعوت کے بہانے بلا کر اپنے پاس قید کر لیا۔ یہ خبر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے اپنا شعار (مخصوص نعرہ) پکارا۔ چنانچہ آپ کے

گرد فوراً چالیس ہزار لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے قصر حکومت (سیکرٹیریٹ) کو گھیرے میں لے لیا۔

حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اور تنہائی

عبید اللہ ابن زیاد نے ان رؤسائے کوفہ کو جنہیں قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا انہیں مجبور کیا کہ تم اپنے اپنے قبائل و برادری سے بات کر کے انہیں واپس بھیجو اور انہیں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت سے دور کرو۔ چنانچہ انہوں نے (اپنی اپنی جان بچانے کی غرض سے) اپنے اپنے قبائل سے گفتگو کر کے انہیں واپس جانے پر مجبور کیا اور یوں لوگ آہستہ آہستہ واپس جانے لگے اور شام تک آپ کے گرد صرف اور صرف پانچ سو افراد رہ گئے اور جب اندھیرا چھا گیا تو وہ بھی چلے گئے اور یوں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ اب آپ راستے میں تنہا تھے تو آپ راستے میں پریشانی کے عالم میں چلتے ہوئے ایک عورت کے مکان پر پہنچے آپ نے اس سے پانی طلب کیا اس نے آپ کو پانی پیش کیا اور آپ کو اپنے گھر تشریف لانے کو کہا۔ آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس عورت کا ایک بیٹا محمد بن اشعث کا چھوٹا تھا اس نے جا کر محمد بن اشعث کو خبر دی اس نے آگے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن خزیمہ کو اور محمد بن اشعث کو بھیجا انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔

حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ اور جنگ کا میدان

اور شہادت معہ صاحبزادگان

حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہا اپنی تلوار لے کر نکلے اور ان سے جہاد شروع کر دیا (آپ کے شدید زخمی ہونے پر) محمد بن اشعث آپ کے پاس آیا اور آپ کو امان کا جھانسہ دے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے آپ کا جسد مبارک لوگوں کی طرف پھینک دیا۔ پھر اس نے ہانی بن عروہ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور یہ واقعہ ذوالحج کی تین تاریخ سن ساٹھ ہجری کو پیش آیا۔ اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے جو کہ آپ کے ساتھ ہی گئے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کو بھی شہید کروا دیا۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مکہ سے کوفہ روانگی

یہی وہ وقت تھا جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لئے روانہ ہوئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ آٹھ ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ آپ کی روانگی کا سبب یہ تھا حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں یہ تمام لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو حضرت

سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا جابر، حضرت سیدنا ابوسعید خدری اور حضرت سیدنا ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہم نے آپ کو جانے روکا لیکن آپ نہ رکے اور ساتھ ہی یہ حدیث پاک بھی سنائی کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ بیان سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مینڈھے کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی بے حرمتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ آپ روانہ ہوئے تو آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے خداموں اور غلاموں میں سے آپ کے ساتھ اٹھا سی لوگ روانہ ہوئے۔

شہادتِ مسلم رضی اللہ عنہ کی خبر امام حسین رضی اللہ عنہ کو

دوران سفر آپ نے سنا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے واپسی کا قصد کیا تو بنو عقیل کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جب تک ہم قصاص نہ لے لیں یا ہم سب شہید نہ ہو جائیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمہارے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں چنانچہ آپ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حر کی آمد

جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو فہ سے دو منزل کے فاصلے

پر تھے تو آپ کو حبر بن یزید ریاحی اور اس کے ساتھ ایک ہزار فوجی تھے جو کہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھیوں میں سے تھے اور مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس نے آپ سے کہا مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں اور اللہ کی قسم میں مجبور ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے اس شہر میں نہیں آیا بلکہ اس کے رہنے والوں نے مجھے خطوط لکھ لکھ کر اور قاصد بھیج بھیج کر مجھے بلوایا ہے اور تم بھی اہل کوفہ میں سے ہی ہو اور اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہو جاتا ہوں وگرنہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حرنے آپ سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ یہ خطوط کن کے ہیں اور نہ ہی میں ان قاصدوں کو جانتا ہوں اور آپ کو چھوڑ کر میرا کوفہ کی طرف پلٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سواب میں آپ کو لے کر کوفہ جاؤں گا۔ ان دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں آمد

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے راستہ تبدیل فرمایا اور آپ سن اکٹھ ہجری محرم الحرام کی دو تاریخ کو کربلا میں اترے۔ آپ نے اس جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ اسے کربلاء کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ کرب و بلاء والی ہے۔ آپ کے ساتھی اتر پڑے اور انہوں نے اپنے سامان بھی اتار

لئے۔ حر اور اس کا لشکر بھی آپ کے بالمقابل کربلاء کی سرزمین میں ہی اتر پڑا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا جس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ جب یہ خط حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملا۔ آپ نے اسے پڑھا اور رکھ دیا اور فرمایا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قاصد لوٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اس سے یہ جواب پا کر وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار عمرو بن سعد کو بنا دیا۔ جو کہ رے شہر (موجودہ ایران کا شہر تہران) کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے وہاں جانے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے معذرت کی۔ ابن زیاد نے اس سے کہا یا تو تم وہاں (کربلا) چلے جاؤ اگر نہیں جاسکتے تو پھر رے کی حکومت دستبردار ہو اور اپنے گھر جا بیٹھو۔ چنانچہ اس نے رے کی حکومت کو پسند کیا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے فوج لے کر روانہ ہو گیا۔

باٹیس ہزار یزیدی فوج اور کربلا

اور ابن زیاد فوجی دستے روانہ کرتا رہا یہاں تک کہ عمرو بن سعد کے پاس باٹیس ہزار سوار اور پیدل فوج جمع ہو گئی۔ یہ تمام لوگ دریائے فرات کے کنارے پر جمع ہو گئے اور پانی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ اکثر وہی لوگ حضرت

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لئے آئے تھے جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے اور آپ کی بیعت کی تھی۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور جنگ کی تیاری

جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب لڑائی یقینی ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے گرد گہری کھائی خندق کے انداز میں کھودیں۔ چنانچہ انہوں نے خندق کھودی اور اس کا ایک ہی دروازہ رکھا تا کہ اس سے گذرا جاسکے۔ اب ابن سعد کا لشکر سوار ہوا اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کا گھیراؤ کر لیا۔ اور اڑدھام کر کے آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جان نثار ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہوتے رہے یہاں تک کہ ان کی تعداد پچاس سے زائد ہو گئی۔

حرمی یزیدی فوج سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی

جماعت میں آمد

اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پکارے: ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہمارا ساتھ دے؟۔ ہے کوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مستورات کی حفاظت کرے؟۔ چنانچہ حرمین یزیدریاحی

جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کی طرف آیا اور عرض گزار ہوا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آپ پر خروج کیا لیکن اب میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے حکم دیں تاکہ میں اب آپ کی مدد میں شہید ہو جاؤں۔ شاید کہ کل قیامت کو میں آپ کے نانا جان کی شفاعت پاسکوں۔ پھر اس نے عمرو بن سعد کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ ان سے لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، اس کا بیٹا اور اس کا غلام بھی شہید ہو گئے۔

جنگ کا عروج اور اہل بیت رسول کی شہادتیں

پھر زور دار جنگ ہوئی یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی بھی شہید ہو گئے، آپ کے خاندان والے آپ کے بچے، آپ کے بھائی، چچا زاد بھائی تک سبھی شہادت پر فائز ہو گئے۔

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کے جہاد کے جوہر

اب آپ تنہا رہ گئے تو آپ نے خود لڑنے کا فیصلہ کیا آپ نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی اور ان سے لڑتے رہے اور جو بھی آپ کے مقابلہ میں آتا آپ اسے مار دیتے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ آپ پر چاروں طرف سے تیر برسے لگے۔

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

شمر اپنے فوجی دستے کے ساتھ آپ کے سامنے آیا اور آپ اور آپ کے خیمہ میں موجود حرم کے درمیان حائل ہو گیا۔ آپ نے للکارا: اے شیطان کے گروہ میں تم سے لڑ رہا ہوں تمہیں گھر والوں سے کیا کام؟۔ عورتیں تم سے نہیں لڑیں گی۔ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ عورتوں پر حملہ نہ کرو بلکہ امام پر ہی حملہ کرو۔ سب نے نل کر آپ پر تیروں اور نیزوں سے حملہ کر دیا یہاں تک کہ آپ شہید ہو کر گر گئے۔ نصر بن خرشہ آپ کا سر مبارک کاٹنے لگا لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی اور وہ آپ کا سر نہ کاٹ سکا۔ تب خولی بن یزید اتر اس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم پر افسوس تم اس شخص پر کس کا انتظار کر رہے ہو جسے زخموں نے چور چور کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ پر مسلسل تیروں اور نیزوں کی بارش ہو گئی۔ یہاں تک کہ بد بختوں میں سے ایک بد بخت کا تیر آپ کے تالو مبارک کے آر پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ شمر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تلوار ماری اور سنان بن انس لختی نے آپ کو نیزہ مارا خولی بن یزید اپنے گھوڑے سے اترتا کہ آپ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کر دے تو اس کے دونوں ہاتھ کانپنے لگے اس کا بھائی شبلی بن یزید گھوڑے سے اتر اس نے آپ کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا اور اپنے بھائی خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ

لوگ حرم نبوی میں داخل ہو گئے اور انہیں قیدی بنانا شروع کر دیا بنی ہاشم میں سے بارہ بچے اور تمام مستورات کو قیدی بنا لیا گیا۔ عمرو بن سعد اور شمر نے ایک گروہ کو حکم دیا تو وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندنے لگے۔ انہوں نے آپ کا سر مکرم بشیر بن مالک اور خولی بن یزید کے ذریعے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔

شہدائے اہل بیت میں سے چند ایک کے نام

حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے جو شہید ہوئے ان میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہم جو کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے آپ کے ساتھ ہی شہید ہوئے، اس کے علاوہ آپ کے دو بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم کے سامنے لڑتے رہے یہاں تک وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ (علی اصغر) بچے ہی اپنے والد محترم کی گود میں کر بلاء میں ہی شہید کر دیئے گئے کہ ایک بد بخت کا تیرا کر انہیں لگا جس وہ شہید ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ہی حضرت عون اور حضرت محمد جو کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے (حضرت سیدنا امام حسین

رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے) وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے عبداللہ، عبدالرحمن اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت دس محرم الحرام سن اکٹھ ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر چھپن برس پانچ ماہ اور پانچ دن تھی۔ بد بخت ابن زیاد نے آپ کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں پھرائے جانے کا حکم دیا۔

شہداء کے سروں کو بعد از شہادت تنوں سے جدا کرنا پھر اس نے آپ کے سر مبارک کو دیگر شہداء کے سروں اور اہل بیت کے قیدیوں کے ہمراہ شمر ذی الجوشن کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس دمشق میں بھیج دیا۔ کچھ وقت کے بعد وہاں سے یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی آل پاک اور آپ کے سر مبارک کو حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہ (امام زین العابدین) کے ہمراہ مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

حضور ﷺ کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی

شہادت کی خبریں عطا فرمانا

(متعدد اسناد سے)

جہاں تک اس ہولناک واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کہ وحی کی صورت میں جبریل علیہ السلام یا دیگر فرشتوں کے ذریعہ سے آئی ہیں، کا تعلق ہے سو وہ مشہور اور متواتر ہیں۔

حضرت عائشہ اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

اور جو روایت محمد بن سعد اور امام طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی ہے کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ بے شک میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں شہید ہوگا۔ اور وہ میرے پاس یہ مٹی لائے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مٹی ان کے دفن ہونے کی جگہ سے ہے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔

- مجمع الزوائد (پیشی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188۔

- کنز العمال (پیشی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 123۔

- اسنی المطالب (محمد بن درویش بیروٹی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔

- فیض القدر جلد (مناوی) نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73۔ ﴿

حضرت ام فضل اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

ابوداؤد اور حاکم نے ام فضل بنت حارث سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے یعنی حسین کو شہید کر دے گی اور جبریل علیہ السلام میرے پاس اس جگہ کی سرخ مٹی میں سے کچھ مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 368۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 197۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 123۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154۔ ﴿

امام احمد نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھر میں وہ فرشتہ آیا جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا یعنی حسین شہید ہو جائے گا

۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی کچھ مٹی بھی دکھا دوں؟ جہاں یہ شہید ہوگا اور اس نے سرخ رنگ کی مٹی لا کر دکھائی۔

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 194۔

۔ فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 770۔

۔ مجمع الزوائد (یثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 301۔

۔ تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 104۔

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193۔

۔ السلسلة الصحیحة (البانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465۔ ﴿

حضرت ام سلمہ اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

امام بغوی نے اپنی معجم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بارش کے فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسے اجازت مل گئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرماتھے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ ہم پر دروازہ کی حفاظت کرنا اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ چنانچہ اسی دوران جب کہ آپ دروازہ پر تھیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ طفلانہ محبت میں اندر داخل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم انہیں گود میں لے کر چومنے لگے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ آپ ان سے محبت

کرتے ہیں؟۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ ہاں۔ فرشتے کہنے لگا: آپ کی امت عنقریب انہیں شہید کر دے گی اگر آپ چاہیں تو ان کی شہادت گاہ آپ کو دکھا دی جائے۔ تو انہوں نے آپ کو ریتلی یا سرخ مٹی لا کر دکھائی جسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لے کر ایک کپڑے میں رکھ لیا۔ حضرت ثابت نے کہا کہ ہم اسے کر بلا کہتے تھے۔

ابو حاتم نے بھی اسے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ احمد کے بیٹے نے اپنی زیادة مسند میں بیان کیا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم مجھے ایک مٹھی بھر سرخ مٹی عطا فرمائی۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242۔

- التذکرۃ (قرطبی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 643۔

- البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257۔

- دلائل النبوة (قرطبی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 369۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- سبل الہدیٰ والارشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154۔ ﴿

حاکم اور بیہقی نے ام فضل بنت حارث سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس داخل ہوئی تو میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں ڈال دیا پھر جو میں نے دیکھا تو پس حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو

جاری ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ اور آپ نے مجھے اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

۔ المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194۔

۔ دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 368۔

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 197۔

۔ البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258۔

۔ الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔ ﴿

حضرت ام سلمہ اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

ایک مزید روایت

ابن راہویہ، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرماتے تھے تو آپ بیدار ہوئے اور آپ اس وقت سخت غمگین تھے اور آپ کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی جسے آپ الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم یہ مٹی کیا ہے؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میرے یہ بیٹا یعنی حسین عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا اور یہ مٹی اسی جگہ کی ہے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 + جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 308۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 367۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 191۔

- ذخائر العقبی (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 148۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 289۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126۔

- سبل الہدیٰ والارشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154۔ ﴿

حضرت انس اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ

بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے بارش کے فرشتے نے اجازت طلب کی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پاس داخل ہوئے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کندھے مبارک پر کھینے لگے اس فرشتہ نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ وہ کہنے لگا: آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی

اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں یہ شہید ہوں گے۔ چنانچہ اس نے زمین پر ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ رنگ کی مٹی پیش کی جسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے میں لپیٹ لیا۔ ہم اس وقت یہ سنا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلاء میں شہید کر دیئے جائیں گے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265۔

- دلائل النبوة (نیہتی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 369۔

- البدایة والنہایة (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257 + صفحہ نمبر 216۔

- النخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 658۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74۔ ﴿

حضرت ام سلمہ اور شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہا

ایک اور روایت

ابو نعیم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

عرض کیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی اور آپ کو اس جگہ کی مٹی پیش کی آپ نے اسے سونگھا اور کہا یہ کرب اور بلاء کی مہک ہے۔ ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا یہ شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اسے ایک شیشی میں بند کر کے رکھ دیا۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- انجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193۔

- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 303۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 409۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- بغیۃ المطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21۔ ﴿﴾

شہر لعین ابلق کتا

ابن مساکر نے محمد بن عمر بن حسن سے روایت کیا ہے کہ ہم کربلاء میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے آپ نے شمر ذی الجوشن کو دیکھا تو فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے اور شمر کا جسم کوڑھا تھا۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- ابن عساکر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 190 + جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 16۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 128۔ ﴿

جہادِ کربلاء میں صحابہ کی شرکت

ابن سکین اور بغوی نے اپنی کتاب الصحابہ میں اور ابو نعیم نے تحمیم کی سند حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سنا آپ نے ارشاد فرمایا: میرا یہ بیٹا اس سرزمین پر شہید کیا جائے گا جسے کربلاء کہتے ہیں اس وقت جو کوئی بھی موجود ہو تو وہ اس کی مدد کرے۔ چنانچہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ کربلاء کی طرف نکلے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شہید ہو گئے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 224۔

- الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ (عسقلانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 217۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126۔

۔ سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 75۔ ﴿

حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور شہادتِ امام حسین

بیہقی نے حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے روایت کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس داخل ہوئے اور آپ کے پاس اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بالا خانہ میں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو اس سرزمین کی خبر دوں جہاں یہ شہید ہوں گے اور جبریل علیہ السلام نے عراق کی سرزمین طف کی طرف اشارہ کیا اور اس جگہ کی سرخ مٹی دکھانے کی غرض سے آپ کو پیش کی۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

۔ دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 370۔

۔ الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ ﴿

بیہقی نے اسے دوسری سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سے موصولاً بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا امام حسین کو فہروانگی سے روکنا

بیہقی نے شععی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ

عنہما مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ عراق

کی طرف جارہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً ان کے پیچھے روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ سے دوراتوں کی مقدار (دو منزل) مقام ربذہ پر ان سے جا ملے۔ اور انہیں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا تو انہوں نے آخرت کو اختیار فرمایا اور دنیا کی چاہت نہیں کی۔ اور آپ انہیں کے جگر کا ٹکڑا ہوا اور اللہ کی قسم دنیا آپ میں سے کسی کو کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ سے پھیر لی ہے تو اس میں آپ کے لئے کوئی بہتری ہی رکھی ہے۔ اس لئے اب آپ واپس لوٹ چلو۔ آپ نے واپسی سے انکار فرمادیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ سے گلے ملے اور آپ سے کہنے لگے کہ میں آپ کو شہید ہونے سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔

﴿تخریج برکاتی﴾:

- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100۔
- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 371۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 202۔
- معجم ابن الاعرابی جلد حدیث نمبر 2346۔
- العزلة للخطابی حدیث نمبر 25۔
- احیاء العلوم الدین (غزالی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233۔
- عیون الاخبار (ابن قتیبہ) صفحہ نمبر 91۔
- بغیة الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔

- البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔

- خلاصۃ الاثر جلد نمبر (الحی) 3 صفحہ نمبر 193۔

- اعلام اللزوری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 78۔ ﴿

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو امام حسین رضی اللہ عنہ

کی شہادت کا یقین

حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے آپ نے کہا کہا اگرچہ (مجان) اہل بیت کثرت میں تھے مگر اس کے باوجود ہمیں کربلا میں حضرت امام حسین کے شہید ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ﴿تخریج برکاتی:﴾

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ ﴿

حضرت مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما، کربلا اور

شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ

ابو نعیم نے یحییٰ حضرمی سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ صفین کا سفر کیا۔ جب وہ نینوا کے برابر

پہنچے تو آپ نے پکارا اے ابو عبد اللہ (حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت) فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا ہے؟۔ حضرت مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے کنارے شہید ہوں گے اور انہوں نے مجھے وہاں کی مٹی لا کر پیش کی۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 478۔

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173۔

- مسند ابی یعلیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187۔

- الاحادیث المختارة (ضیاء مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔

- اتحاف الخیرة المھر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90۔

- مسند البزار حدیث نمبر 884۔ (مسند علی)۔

- التبصرہ (ابن جوزی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288۔

- البدایة والنہایة (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 192۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74۔

ابونعیم نے اصبح بن نباتہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ (جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک والی جگہ ہے) گذر رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ شہداء کے اونٹ باندھنے کی جگہ ہے اور ان کے اونٹوں کے کجاوے یہیں رکھے جائیں گے، یہیں ان کے خون بہانے کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک گروہ انہی سنگریزوں میں شہید کیا جائے گا جن پر آسمان اور زمین روئیں گے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- اتحاف الخیرة لمهرة (بوسیری) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9۔

- المطالب العالیہ (عسقلانی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 449۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 97۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ کا انتقام

حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں ستر ہزار لوگوں کو قتل کیا لیکن آپ کی بیٹی کے بیٹے

(نواسے) کے بدلے میں (انتقاماً) ستر ہزار اور ستر ہزار قتل کروں گا۔
﴿تخریج برکاتی﴾

- تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 219۔
- تفسیر درمنثور (سیوطی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 492۔
- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 648۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 225۔
- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 431۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342۔
- میزان الاعتدال (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔
- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 219۔
- لسان المیزان (عسقلانی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 457۔
- کنز العمال (سیوطی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 127۔
- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔
- مقاصد حسنہ (سخاوی) صفحہ نمبر 484۔
- کشف الخفاء (العجلونی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔
- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 150۔
- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 81۔ ﴿

حضور ﷺ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر دینا

احمد اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک دن آپ نے دوپہر کے وقت آرام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے اور میں آج کا دن ان کا خون اٹھاتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے یہ خواب والا دن شمار کیا تو میں نے پایا کہ یہ وہی وقت ہے جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283۔

- فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 779۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 372۔

- اتحاف الخیرة لمحر (بوصیری) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90۔

- فیض القدر (مناوی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 148۔
- الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن عبدالبر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔
- اسد الغابۃ (ابن اثیر جزری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔
- الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔
- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔
- البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258۔
- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔
- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 182۔ ﴿

حضور ﷺ کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر دینا

حاکم اور بیہقی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور اور داڑھی مبارک میں گرد لگی ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی شہادت حسین میں موجود تھا۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- سنن ترمذی ابواب المناقب باب مناقب الحسن والحسین۔
- التاريخ الکبیر (امام بخاری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324۔
- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 373۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 95۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 238۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 439۔

- اسد الغابۃ (ابن اثیر) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316۔۔

- جامع الاصول (ابن اثیر) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6567۔

- البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 148۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 75۔ ﴿

شہادتِ حسین رضی اللہ عنہ کے بعد آسمان سے خون ٹپکنا

بیہقی اور ابو نعیم نے بصرہ ازویہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا

کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی

بارش ہوئی جب ہم نے صبح کی تو ہم نے پایا کہ ہمارے منگے، گھڑے اور

ہماری ہر برتن خون سے بھری ہوئی ہے۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 373۔

- الثقات (ابن حبان) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 487۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 227۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 433۔
- یغیہ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔
- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ ﴿

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد بیت المقدس

کے پتھروں سے خون

بیہقی اور ابو نعیم نے زہری سے روایت کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن بیت المقدس کا جو بھی پتھر الٹایا جاتا اسی پتھر کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113۔
- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155۔
- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 374۔
- سمط النجوم العوالی (العصامی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 229۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 182۔ ﴿

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اندھیرا اچھانا

بیہقی نے ام حبان سے روایت کیا ہے کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہم پر تین دن تک اندھیرا رہا اور ہمیں ان کے سامان میں سے زعفران ملا جس نے بھی اسے چہرے پر لگایا تو اس سے اسی کا چہرہ جل اٹھا اس دن بیت المقدس کا کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا

﴿تخریج برکاتی﴾

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 229۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40۔ ﴿

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزیدی لشکر کے

گوشت میں زہر بھری کڑواہٹ

بیہتی نے جمیل بن مرہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا شہادتِ حسین کے دن یزید کے لشکر والے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے کئی اونٹ پکڑ کر لے گئے انہوں نے انہیں ذبح کیا اور انہیں پکایا تو وہ اندرائن کے جیسے ہو گئے اتنے کڑوے کہ کوئی بھی ان میں سے کچھ بھی نہ کھا سکا۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- دلائل النبوة (بیہتی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 377۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 231۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 435۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔

- یغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العذیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔ ﴿

بیہتی اور ابو نعیم نے سفیان سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا مجھے میرے دادا نے بتایا کہ شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ والے دن میں نے سرسبز جڑی بوٹیاں دیکھیں جو کہ راکھ ہو گئیں اور میں نے گوشت دیکھا کہ وہ گویا کہ وہ آگ بن گیا۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- دلائل النبوة (بیہتی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 376۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 230-

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313-

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16-

- المعرفۃ والتاریخ (فسوی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31-

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193-

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42- ﴿

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ پر آسمان کا رونا

بیہتی نے علی بن مسہر سے روایت کیا انہوں نے کہا مجھے میری دادی

نے بتایا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو میں

نوجوان لڑکی تھی اس وقت آسمان کئی دن تک آپ کی شہادت کی وجہ سے روتا

رہا۔

﴿تخریج برکاتی:﴾

- دلائل النبوة (بیہتی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375-

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 226-

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193- ﴿

قاتلان حسین پر دنیا میں عذاب

ابو نعیم نے سفیان کی سند سے ان کی دادی سے روایت کیا ہے کہ دو

شخص جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل تھے ان

میں سے ایک شخص کا الہ تناسل اتنا بڑھ گیا کہ وہ اسے اپنی کمر کے گرد لپیٹ

لیتا تھا دوسرے کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ تھوٹا تالاب بھی پی جاتا پھر بھی پیاس نہ بجھتی تھی۔

﴿تخریج برکاتی﴾

- انجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 234۔
- مجمع الزوائد (پیشی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 317۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 438۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314۔
- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔
- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (ملا علی قاری) باب الاستعاذۃ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 384۔
- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔
- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32۔
- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 317۔ ﴿

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ پر جنوں کا رونا اور اشعار پڑھنا

ابو نعیم نے حبیب بن ثابت سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جنوں سے رونے کے اشعار میں نے خود سنے تھے وہ روتے ہوئے یہ کہتے تھے:

اس پیشانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما

اسی سے چمک ہے ان کی پیشانی پر

حسین کے والدین قریش کے سردار تھے
اور ان کے نانا جہاں سے بہتر تھے

﴿تخریج برکاتی﴾:

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔

- التدوین فی اخبار قزوین (الرافعی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔

- التبصرۃ (ابن جوزی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9۔

- الخصال الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- آکام المرجان فی احکام الجان (شبلی) صفحہ نمبر 176۔ ﴿

شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

کا جنوں سے اشعار سننا

ابونعیم نے حبیب بن ثابت کی سند سے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے جنوں کے دردناک اشعار کبھی بھی نہیں سنے سوائے اسی رات (شب عاشورہ) کے اور میں جان گئی کہ میرا بیٹا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا جا کر معلوم کرو تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور جن یہ دردناک اشعار پڑھ رہے تھے:

اے آنکھ تو شدت سے رو لے
اس کے بعد شہداء پر کون روئے گا
قافلہ پر جس کی قیادت موت کر رہی تھی
لے جا رہے تھے میرے دور کے ظالم کی طرف

﴿تخریج برکاتی:﴾

- انجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 241۔

- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 321۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 441۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔

- الامالی الشجریہ (ابن شجرى) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144۔

- سبل الھدی والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76۔ ﴿

ابو نعیم نے مزبدہ بن جابر حضرمی سے روایت کی ہے انہوں نے اپنی
ماں سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی
شہادت پر میں نے جنوں سے دروناک اشعار سنے جو کہہ رہے تھے:
آنسوؤں کے ساتھ تمہیں بتاؤں کہ حسین شہید ہو گئے
جو کہ حسین بھی تھے اور اور صبر کے پہاڑ بھی تھے

﴿تخریج برکاتی:﴾

- معرفۃ الصحابة (ابو نعیم) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 334۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76۔ ﴿

سر حسین رضی اللہ عنہ کی نیزہ پر تلاوت

ابن عسا کر نے منہال بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک میں نے نیزہ پر دمشق میں خود دیکھا۔ آپ کے سر مبارک کے آگے ایک شخص قرآن پاک کی سورۃ الکھف پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک وہ پہنچا اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِیْمِ كَانُوا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا تو آپ کے سر مبارک میں سے آواز آئی اَعْجَبُ مِنْ اَصْحَابِ الْكُهْفِ قَتَلْتَنِي وَحَمَلْتَنِي ترجمہ: میرا شہید ہونا اور نیزے پر چڑھنا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے

﴿تخریج برکاتی:﴾

- ابن عسا کر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370۔

- شرح الصدور (سیوطی) صفحہ نمبر 88۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76۔ ﴿

قاتلان حسین کیلئے غیب سے قلم کا ظہور بغرض وارننگ

ابو نعیم نے ابن لھئیجہ، ابو قنبل سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ان کا سر مبارک کاٹ

کردمشق روانہ کیا گیا اور وہ پہلی ہی منزل پر جب شراب پینے لگے تو لوہے
کا ایک قلم ظاہر ہوا اور اس نے خون سے یہ لکھ دیا

شعر

کیا یہ امت حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی
ان کے نانا کی قیامت میں شفاعت کی امید رکھتی ہے

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123۔
- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 320۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 243۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 443۔
- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107۔
- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 218۔
- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبد اللہ طبری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔
- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76۔
- ذیل تاریخ بغداد (ابن نجار) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195۔ ﴿

لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة

المصطفى و المرتضى و ابناهما و الفاطمة

سِرُّ الشَّهَادَاتَيْنِ


از

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر مکتبہ برکاتیہ دیپالپور روڈ الہ آباد ٹھینگ مور ضلع قصور

0300-4746132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

پنہای کیشن

پنہای کیشن

نورینہ رضویہ

سِرُّ الشَّاهِدَتَيْنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْكَمَالَاتِ الَّتِي تَفَرَّقَتْ فِي
 الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَدْ اجْتَمَعَتْ فِي نَبِينَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أُعْطِيَ الْخِلَافَةَ كَمَا أُعْطِيَ آدَمُ وَدَاوُدُ عَلَيْهِمَا
 السَّلَامُ وَأُعْطِيَ الْمُلْكَ كَمَا أُعْطِيَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَأُعْطِيَ الْحُسْنَ كَمَا أُعْطِيَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُعْطِيَ الْخُلَّةَ
 كَمَا أُعْطِيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُعْطِيَ الْكَلَامُ كَمَا أُعْطِيَ
 مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُعْطِيَ الْعِبَادَةَ كَمَا أُعْطِيَ يُونُسُ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ وَأُعْطِيَ الشُّكْرُ كَمَا أُعْطِيَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ زِيدَ
 لَهُ كَمَالَاتٌ أُخْرَى مِنْ أَنْوَاعِ الْوَلَايَاتِ وَالْمَحْبُوبِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ
 وَالْإِصْطِفَاءِ الْمُطْلَقِ وَالرُّؤْيِيَّةِ وَالْقُرْبِ الْإِتْمِ وَالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى
 وَالْجِهَادِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكَمَالَاتِ
 كَالْعِلْمِ الْوَسِيعِ وَالْعِرْفَانِ وَالْإِتْمِ وَالْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا وَالْإِجْتِهَادِ
 وَالْإِحْتِسَابِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ بَقِيَ لَهُ كَمَالٌ لَمْ يَحْصُلْ

لَهُ بِنَفْسِهِ وَهِيَ الشَّهَادَةُ وَالسِّرُّ فِي عَدَمِ حُصُولِهَا لَهُ بِنَفْسِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَوِ اسْتُشْهِدَ فِي الْحَرْبِ لَأَدَّى ذَلِكَ
إِلَى كَسْرِ شَوْكَةِ الْإِسْلَامِ وَاخْتِلَالِ الدِّينِ فِي نَظَرِ الْعَوَامِّ وَلَوْ
اسْتُشْهِدَ غَيْبَةً وَسِرًّا كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ خُلَفَائِهِ لَمْ يَشْتَهَرْ
أَمْرُ شَهَادَتِهِ بَلْ وَلَا تَمَّتِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ تَمَامَ الشَّهَادَةِ أَنْ يُقْتَلَ
الرَّجُلُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْكَرْبَةِ وَأَنْ يُعْقَرَ جَوَادُهُ وَيُلْقَى جُثَّتُهُ
مَطْرُوحَةً وَيُقْتَلَ حَوْلَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ أَعِزَّةِ أَصْحَابِهِ وَأَقَارِبِهِ
وَأَنْ يُنْهَبَ مَالُهُ وَأَنْ تُوسَرَ نِسَائُهُ وَأَيْتَامُهُ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ
فَاقْتَضَتْ حِكْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُلْحَقَ هَذَا الْكَمَالُ الْعَظِيمُ
بِسَائِرِ كَمَا لَاتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَانْقِضَاءِ أَيَّامِ خِلَافَتِهِ الَّتِي تُنَافِي
الْمَغْلُوبِيَّةَ وَالْمَظْلُومِيَّةَ بِرِجَالٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بَلْ بِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ
وَأَعَزِّ أَوْلَادِهِ وَمَنْ يَكُونُ فِي حُكْمِ آبَائِهِ حَتَّى يُلْحَقَ حَالُهُمْ
بِحَالِهِ وَيَنْدَرِجُ كَمَالُهُمْ فِي كَمَالِهِ فَتَوْجَّهَتْ عِنَايَةُ اللَّهِ تَعَالَى
بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْخِلَافَةِ إِلَى هَذَا الْإِلْحَاقِ فَاسْتَنَابَتِ الْحَسَنَيْنِ
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ مَنْابَ جَدِّهِمَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ
وَجَعَلَهُمَا امْرَأَتَيْنِ لِمُلاحَظَتِهِ وَخَدَّيْنِ لِحَمَالِهِ . وَلَمَّا كَانَتْ
الشَّهَادَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ ، شَهَادَةٌ سِرٌّ وَشَهَادَةٌ عَلَانِيَّةٌ قُسِمَتْ
عَلَيْهِمَا فَاخْتَصَّ السِّبْطُ الْأَكْبَرُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَلَمَّا كَانَ أَمْرُهَا

مَسْتُورَةٌ لَمْ يَظْهَرْ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْوَحْيِ وَأُبْهِمَ أَمْرُهَا عِنْدَ الْوُقُوعِ
 أَيْضًا حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى يَدَيِ زَوْجَتِهِ وَالزَّوْجَةُ مِنْ عَلائِقِ الْمَحَبَّةِ
 دُونَ الْعَدَاوَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى السِّرِّ وَالْإِخْفَاءِ وَلِذَلِكَ
 لَمْ يُخْبَرْ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا غَيْرُهُمَا وَاخْتَصَّ السَّبْطُ الْأَصْغَرُ بِالْقِسْمِ
 الثَّانِيِّ وَلَمَّا كَانَ مَبْنِيٌّ أَمْرُهُ عَلَى الشُّهُرَةِ وَالْإِعْلَانِ أَنْزَلَ أَوَّلًا
 فِي الْوَحْيِ عَلَى لِسَانِ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
 ثُمَّ بَتَعَيْنِ الْمَكَانِ وَتَسْمِيَتِهِ وَتَعْيِينِ الزَّمَانِ وَهُوَ رَأْسُ السِّتِينَ
 ثُمَّ اشْتَهَرَ أَمْرُهُ وَأُعْلِنَ ذِكْرُهُ عَلَى لِسَانِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ كَرَّمَ اللَّهُ
 وَجْهَهُ فِي سَفَرِهِ إِلَى صِفِّينَ ثُمَّ لَمَّا وَقَعَتْ وَاقِعَةُ الشَّهَادَةِ اشْتَهَرَ
 أَمْرُهَا بِإِنْقِلَابِ التُّرْبَةِ دَمًا وَأَمْطَارِ الدَّمِ مِنَ السَّمَاءِ وَهَتَفَ
 الْهَوَاتِفِ بِالْمَرَاثِي وَنَوَّحَ الْجِنُّ وَبَكَائِهِمْ وَطَوَافِ السِّبَاعِ
 حَافِظَاتِ لِحْيَتِهِ وَدُخُولِ الْحَيَاتِ فِي مَنَاخِرِ قَاتِلِيهِ إِلَى غَيْرِ
 ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الشُّهُرَةِ لِيَطَّلَعَ الْحَاضِرُونَ وَالْغَائِبُونَ عَلَى
 وَقُوعِهَا بَلْ بِإِبْقَاءِ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ الْمُسْتَمِرِّ وَتَذَكُّرِ تِلْكَ
 الْوَقَائِعِ الْهَائِلَةِ فِي أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فَقَدْ بَلَغَتْ نِهَايَةَ الشُّهُرَةِ
 فِي الْمَلَاءِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ وَالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ
 وَالنَّاطِقِ وَالصَّامِتِ إِذَا تَمَهَّدَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ فَلَنَذْكُرَ مَا يَتَعَلَّقُ

بِهَذَا الْبَابِ مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَا مَهَّدْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَنَقُولُ أَمَّا
كَوْنُ السَّبْطَيْنِ ابْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ
وَجْهَانِ : الْأَوَّلُ أَنَّ ابْنَ النَّبِيِّ لَهُ حُكْمُ الْإِبْنِ وَلِهَذَا يُعَدُّ عَيْسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ . وَالثَّانِي النَّبِيُّ فَقَدْ ثَبَتَ بِطُرُقٍ
مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هُمَا ابْنَايَ
وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيِّ عَنْ هَانِيءِ
بْنِ هَانِيءٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ : لَمَّا وُلِدَ
الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ جَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ
حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قَالَ : أَرُونِي ابْنِي
مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ فَلَمَّا وُلِدَ الثَّلَاثُ
قَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ ؟ قُلْتُ حَرْبًا قَالَ : بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ
ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمَّيْتُهُمْ بِأَسْمَاءِ وُلْدِ هَارُونَ شَبْرَ وَشَبِيرَ وَمُشَبَّرَ
وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالذَّارِقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ كُلُّهُمْ عَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ
وَجْهَهُ وَأَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ مِثْلَهُ .

﴿تخریج برکاتی﴾:

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔
- مؤطا امام محمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 631۔
- مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔
- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379۔
- صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 409۔
- مسند الہمز ار حدیث نمبر 742۔
- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔
- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180+183۔
- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 6 صفحہ 166 + جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 63۔
- الاحادیث المختارة (ضیاء مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180۔
- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 117۔
- البحر الزخار (مسند الہمز ار) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔
- مجمع الزوائد جلد (پنجمی) نمبر 8 صفحہ نمبر 102۔
- موارد النظم ان الی زوائد ابن حبان (پنجمی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔
- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660۔
- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 119۔
- اسد الغابہ (ابن اثیر): ترجمہ حسن بن علی + ترجمہ حسین بن علی۔
- الاصابہ فی تمییز الصحابة (عسقلانی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243۔
- بغیة الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6۔ ﴿

وَفِي الْقَامُوسِ شَبْرُ كَبِّمٍ وَشَبِيرٌ كَقَمِيرٍ وَمُشَبَّرٌ
 كَمَا حَدَّثَ ابْنَاءُ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَمَّا كَوْنُهُمَا مِرَاتَيْنِ
 لِمُلاحَظَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ مِنْ
 جِهَةِ السِّيَادَةِ الْمُطْلَقَةِ فَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالرُّوْيَانِيُّ وَالضِّيَاءُ
 عَنْ حُدَيْفَةَ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 وَابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي
 الْكَبِيرِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَالْبَرَاءِ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَمَالِكِ بْنِ
 الْحُوَيْرِثِ وَالذَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ
 عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي رَمْثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .
 وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا

﴿تخریج برکاتی﴾

- سنن ابن ماجه المقدمه باب فضل علی بن ابی طالب -

- مشکل الامار (طحاوی) جزء نمبر 11 صفحہ نمبر 150 - بیان مشکل ماروی عن رسول اللہ

فاطمہ منی

- المعجم الكبير (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 -

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182 -

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 209 -

- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔

- معجم ابن اعرابی حدیث نمبر 2266۔

- کشف الخفاء (العجلونی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔

- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 293۔

- کنز العمال (علی متقی) حدیث نمبر 34259۔

- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (ملا علی قاری) جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 34۔ ﴿

وَعِنْدَ الطَّبْرَانِيِّ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَزَادَ الْحَاكِمُ وَابْنُ

حَبَّانَ وَغَيْرُهُمَا إِلَّا ابْنِي الْخَالَةِ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى ابْنَ

زَكَرِيَّا .

﴿تخریج برکاتی﴾

- تفسیر درمنثور (سیوطی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 489۔

- مشکل الآثار (طحاوی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 499۔

- سنن کبریٰ (نسائی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50۔

- صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 411۔

- شرح مذاہب اہل السنۃ (ابن شاہین) حدیث نمبر 175۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374۔

- حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔

- فضائل الخلفاء الراشدین (ابو نعیم) حدیث نمبر 130۔

- ابن عساکر جلد نمبر 64 صفحہ نمبر 192۔

- دیلمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158۔

- مجمع الزوائد (پہلی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182۔

- اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259۔ (حسن بن علی)

- البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61۔ ﴿

وَمِنْ مُتَفَرِّعَاتِ هَذِهِ الْمِرَاتِيَّةِ كَوْنُ مَحَبَّتِهِمَا مَحَبَّتَهُ
وَبُغْضِهِمَا بُغْضَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ
ابْنِ عَسَاكِرَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ
أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي .

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔

- فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 771۔

- سنن کبریٰ (نسائی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49۔

- مشکل الآثار (طحاوی) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 451۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48۔

- مسند اسحاق بن راہویہ حدیث نمبر 211۔

- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 29۔

- ذیل تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 132۔

- الکامل (ابن عدی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435۔
- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 401۔
- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 277۔
- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223۔
- تہذیب المعجم (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔
- الاصابہ فی تمییز الصحابہ (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔
- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 119۔ ﴿

وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ مُشَابَهَةِ الصُّورَةِ فَإِنَّهُمَا كَانَا كَالْتَصْوِيرَيْنِ
 لَهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ
 أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَقَالَ فِي الْحُسَيْنِ أَيْضًا كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
 ﴿تخریج برکاتی﴾

- صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب مناقب الحسن والحسین۔
- شعب الایمان (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 468۔
- تہذیب الاسماء (نودی) ترجمہ حسن بن علی بن ابی طالب۔
- فتح الباری (عسقلانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474۔
- ذخائر العقبی (احمد طبری) صفحہ نمبر 127۔
- سبل الہدی والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115۔ ﴿

وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُفَصَّلًا التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ
وَجْهَهُ وَصَحَّحَهُ قَالَ: الْحَسَنُ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِإِهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ
﴿تخریج برکاتی﴾

- سنن ترمذی کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین۔

- مسند ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔

- صحیح ابن حبان کتاب اخبارہ عن مناقب الصحابہ باب اخبارہ عن مناقب الصحابہ رجالہم ونسبہم

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 183۔

- الاحادیث المختارہ (مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393۔

- اسد الغابہ (ابن اثیر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264۔

- موارد النظمآن (یثمی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553۔

- ذخائر العقبی (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 127۔

- الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (ابن العدیم) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 39۔

- کنز العمال (ع) جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 660۔

- سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 60۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَخَذَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا
وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ
مُنْكَرٌ.

﴿ تخریج برکاتی:﴾

- سنن ترمذی ابواب المناقب باب ذیل مناقب علی بن ابی طالب۔

- مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77۔

- فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 693۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 196۔

- الاحادیث المختارة (مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ 44۔

- کتاب الشفاء (قاضی عیاض) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔

- جامع الاصول (ابن اثیر) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6706۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228۔

- سیر اعلام النبلاء (مزی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 135۔

- تاریخ اسلام (زہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 95۔

- الریاض النضرہ (محب طبری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 97۔

۔ سبل الھدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 58۔ ﴿

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَجَّ الْحَسَنُ خَمْسَ
عَشْرَ حَجَّةً مَاشِيًا وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَرَجَ مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ
مَرَّتَيْنِ وَقَاسَمَ لِلَّهِ مَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّىٰ أَنَّهُ كَانَ يُعْطَىٰ نَعْلًا
وَيُمْسِكُ نَعْلًا وَيُعْطَىٰ خُفًّا وَيُمْسِكُ خُفًّا .
﴿ تخریج برکاتی :

۔ تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 233۔

۔ تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37۔

۔ صفحۃ الصفوۃ (ابن جوزی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 760۔

۔ ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 137۔ ﴿

(ذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ : حَجَّ خَمْسًا وَعِشْرُونَ مَاشِيًا . نُورُ دُ اسْمَاءِ
بَعْضِ الْكُتُبِ : بَرَكَاتِي غُفْرَانَهُ)

۔ المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185۔

۔ سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331۔

۔ اخبار مکہ (فاکھی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396۔

۔ ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 242۔

۔ اتحاف الخیرۃ المھرۃ (بوصیری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔

۔ سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔

۔ البدایۃ والنہایۃ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 42۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 166۔

- حیوة الحیوان الکبریٰ (دمیری) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- الصواعق المحرقة (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔

وَكَانَ وَقَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَنَةً تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ

عَلَى أَرْجَحِ الْأَقْوَالِ فِي أَوَّلِ ربيعِ الْأَوَّلِ أَوْ فِي آخِرِ صَفَرٍ وَهُوَ

الْمَشْهُورُ وَسَبَبُ مَوْتِهِ أَنَّ زَوْجَتَهُ جَعْدَةَ بِنْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ

سَمَّتَهُ بِأَغْوَاءِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ يَزِيدٌ ضَمِنَ لَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

فَفَعَلَتْ فَمَرِضَ الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ

مَاتَ فَبَعَثَتْ جَعْدَةُ إِلَى يَزِيدٍ تَسْأَلُهُ الْوَفَاءَ بِمَا وَعَدَهَا فَقَالَ إِنَّا

لَمْ نَكُنْ نَرُضَّاكَ لِلْحَسَنِ أَفَرُضَّاكَ لِأَنْفُسِنَا فَصَارَتْ مِمَّنْ خَسِرَ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 284۔

- اسد الغابہ (ابن اثیر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔

- الاستیعاب صفحہ نمبر 115۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 169۔

- الصواعق المحرقة (ابن حجر مکی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413۔

- سمط النجوم العوالی فی انباء الاولی والتوالی (عصامی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44۔

- وفيات الاعیان (ابن خلیکان) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66۔

- الوافی بالوفیات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 162۔ ﴿

وَكَانَ مَرَضُهُ الْإِسْهَالَ الْكَبِيدَ وَتَقَطَّعَ الْأَمْعَاءَ وَلَمَّا
حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَاءَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ أَيُّ
أَخِي مَنْ صَاحِبُكَ قَالَ: تُرِيدُ قَتْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لَيْنُ كَانَ
صَاحِبِي الَّذِي أَظُنُّ اللَّهُ أَشَدُّ لَهُ نِقْمَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ مَا أَحَبُّ أَنْ
تَقْتُلَ لِي بَرِيئًا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ السَّمَّ مِرَارًا وَمَا سَقَيْتُ مَرَّةً
أَشَدَّ مِنْ هَذِهِ.

﴿تخریج برکاتی﴾

- جامع معمر بن راشد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔

- مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 452۔

- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 476۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193۔

- حلیۃ الاولیاء ابو نعیم) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔

- ابن عساکر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 283۔

- ذخائر العقبی (احمد طبری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔

- الاستیعاب فی معرفة الاصحاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔

- اسد الغابہ (ابن اثیر) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274۔

- الصواعق المحرقة (ابن حجر) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415۔

- صفحہ الصفوة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 761۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 251۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 46۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260۔

- ربیع الابرار (زنجبیری) جلد نمبر صفحہ 1 نمبر 438۔ ﴿

وَكَانَ عُمُرُهُ الشَّرِيفُ خَمْسَةً وَارْبَعِينَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ

إِلَّا أَيَّامًا وَقَدْ وُلِدَ لِلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهَجْرَةِ عَلَى

الصَّحِيحِ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257۔ ﴿

وَقِيلَ فِي رَمَضَانَ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ السِّرِّيَّةِ الَّتِي

اخْتَصَّ بِهَا السَّبْطُ الْأَكْبَرُ .

(كُتِبَ الْمُصَنِّفُ مِنْ هُنَا بِحِثِّيَّةِ الْمُؤَرِّخِ وَلِهَذَا نُورِدُ

أَسْمَاءَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْكُتُبِ فِي فَنِّ التَّارِيخِ فَقَطُ: بَرَكَاتِي

غُفِرَ لَهُ)

- تاریخ الامم والملوک از محمد بن جریر طبری۔

- الکامل فی التاریخ از ابن الاثیر۔

- تاریخ ابن خلدون از ولی الدین محمد بن محمد ابن خلدون۔

- البدایہ والنہایہ از عماد الدین ابن کثیر۔

- تاریخ الخلفاء از جلال الدین سیوطی وغیرہم۔

وَأَمَّا الشَّهَادَةُ الْجَهْرِيَّةُ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا السَّبْطُ الْأَصْغَرُ
فَهِيَ مِنْ أَكْبَرِ الْوَقَائِعِ الْمَشْهُورَةِ وَسَبَبُ شُهْرَتِهَا كَوْنُهَا جَهْرِيَّةً
وَسَبَبُهَا أَنَّهُ لَمَّا تَمَلَّكَ يَزِيدُ وَتَسَلَّطَنَ وَذَلِكَ فِي رَجَبِ سَنَةِ
سِتِّينَ بِدِمَشْقَ كَتَبَ إِلَى الْأَقَالِيمِ لِأَخْذِ الْبَيْعَةِ لَهُ وَكَتَبَ إِلَى
عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنْ يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ مِنَ الْحُسَيْنِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَامْتَنَعَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَيْعَتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ
فَاسِقًا مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ ظَالِمًا . وَخَرَجَ الْحُسَيْنُ إِلَى مَكَّةَ لِارْتَبَعِ
نَحْلُونَ مِنْ شَعْبَانَ فَدَخَلَ مَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا وَلَمَّا وَصَلَ الْخَبْرُ إِلَى
أَهْلِ كُوفَةَ اتَّفَقَ مِنْهُمْ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَكَتَبُوا إِلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَدْعُوْنَهُ إِلَيْهِمْ وَيَبْذُلُونَ لَهُ بِالْقِيَامِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ وَبِالْغُورَا فِي ذَلِكَ وَتَتَبَاعَثُ إِلَيْهِ نَحْوُ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ
كِتَابًا مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ وَجَمَاعَةٍ فَسِيرَ إِلَيْهِمْ ابْنُ عَمِّهِ مُسْلِمُ بْنُ
عَقِيلٍ وَحَثَّهُمْ عَلَى نُصْرَتِهِ وَحِمَايَتِهِ فَلَمَّا وَصَلَ مُسْلِمُ الْكُوفَةَ

نَزَلَ فِي دَارِ الْمُخْتَارِ بْنِ عُبَيْدٍ وَبَايَعَ الْحُسَيْنَ عَلَى يَدَيْهِ خَلْقٌ
 كَثِيرٌ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَاطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ
 بَشِيرٍ وَالْيَ كُوفَةَ مِنْ جَانِبِ يَزِيدَ وَكَانَ صَحَابِيًّا فَهَدَّدَ النَّاسَ
 عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ التَّهْدِيدِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِأَحَدٍ
 فَكَتَبَ مُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ وَعُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ عُقْبَةَ
 إِلَى يَزِيدَ يُخْبِرَانِهِ عَنْ أَمْرِ مُسْلِمٍ وَمَيْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَيْهِ وَتَغَافُلِ
 النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْهُ فَعَزَلَ يَزِيدُ النُّعْمَانَ وَوَلَّى مَكَانَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ
 بْنُ زِيَادٍ وَكَانَ وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَةِ فَتَوَجَّهَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مِنَ
 الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ وَدَخَلَهَا لَيْلًا مِنْ جِهَةِ الْبَادِيَةِ فِي لِبَاسِ أَهْلِ
 الْحِجَازِ وَأَوْهَمَ أَنَّهُ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ فِي
 ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَمَشَوْا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالُوا مَرْحَبًا بِكَ يَا
 ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ فَسَكَتَ حَتَّى دَخَلَ
 دَارَ الْإِمَارَةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَمَعَ النَّاسَ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ مَنُشُورَ الْإِيَالَةِ
 وَهَدَّدَهُمْ وَحَدَّرَهُمْ عَنْ مُخَالَفَةِ يَزِيدَ وَفَرَّقَ جَمَاعَةَ مُسْلِمِ بْنِ
 عَقِيلٍ بِالْحِيلَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَاخْتَفَى مُسْلِمٌ فِي دَارِ هَانِيءِ ابْنِ عُرْوَةَ
 . فَأَرْسَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ مَعَ فَوْجٍ إِلَى دَارِهِ فَاتَّوَا
 بِهَانِيءِ ابْنِ عُرْوَةَ فَحَبَسَهُ وَحَبَسَ جَمِيعَ رُؤَسَاءِ الْكُوفَةِ عِنْدَهُ
 فِي الْقَصْرِ وَآتَى الْخَبْرُ مُسْلِمًا فَنَادَى شِعَارَهُ . فَاجْتَمَعَ مَعَهُ

أَرْبَعُونَ أَلْفًا ، وَأَحَاطُوا حَوْلَ الْقَصْرِ فَأَمَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَسَارِي مِنْ
 زُؤَسَاءِ الْكُوفَةِ أَنْ يُكَلِّمُوا عَشَائِرَهُمْ وَيُرُدُّوهُمْ عَنْ رِفَاقَةِ مُسْلِمٍ
 فَكَلَّمُوهُمْ فَتَفَرَّقُوا كُلُّهُمْ وَأَمْسَى مُسْلِمٌ فِي خَمْسِ مِائَةٍ . فَلَمَّا
 اخْتَلَطَ الظَّلَامُ ذَهَبَ أَوْلِيكَ أَيْضًا . وَبَقِيَ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ فَتَرَدَّدَ
 فِي الطَّرِيقِ فَاتَى مَنْزِلَ امْرَأَةٍ فَاسْتَسْقَاهَا فَسَقَّتَهُ وَأَدْخَلَتْهُ فِي
 مَنْزِلِهَا وَكَانَ ابْنُهَا مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ فَاخْبَرَهُ
 مُحَمَّدًا وَأَخْبَرَ مُحَمَّدٌ عُبَيْدَ اللَّهِ . فَبَعَثَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَمْرَو بْنَ
 حُرَيْثِ صَاحِبَ الشَّرِطِ وَمُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ . فَأَحَاطَا بِالْدارِ
 فَخَرَجَ مُسْلِمٌ بِسَيْفِهِ يُقَاتِلُهُمْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ الْأَمَانِ
 فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَلْقَى جُثَّتَهُ إِلَى النَّاسِ
 وَصَلَّبَ هَانِئًا وَكَانَ ذَلِكَ لِثَلَاثِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ
 سِتِّينَ مِنَ الْهَجْرَةِ وَقَتَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ مُحَمَّدًا وَابْرَاهِيمَ ابْنَيْ مُسْلِمٍ
 أَيْضًا مَعَهُ .

وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى
 الْكُوفَةِ وَقِيلَ كَانَ خُرُوجُهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . وَكَانَ سَبَبُ خُرُوجِهِ
 أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ كَانَ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ يَلْتَمِسُ قُدُومَهُ . وَلَمَّا
 تَجَهَّزَ بِالْخُرُوجِ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ
 وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ فَلَمْ يَمْتَنِعْ بِمَنْعِهِمْ وَقَالَ

اِنِّي سَمِعْتُ اَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 وَسَلَّم يَقُولُ: اِنَّ كَبْشًا يَسْتَحِلُّ بِهِ مَكَّةَ فَلَا اَكُوْنُ اَنَا ذَلِكَ
 الْكَبْشَ وَسَارَ مَعَ اثْنَيْنِ وَثَمَانَيْنِ نَفْسًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَشِيعَتِهِ
 وَمَوَالِيهِ فَسَمِعَ فِي اَثْنَاءِ الطَّرِيْقِ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ وَتَفَرُّقِ جَمَاعَتِهِ
 فَقَصَدَ الرَّجُوْعَ فَقَالَ بَنُو عَقِيْلٍ وَاللّٰهِ لَا نَرْجِعُ حَتّٰى يُصِيبَ
 بَشَارِنَا اَوْ نُقْتَلَ . فَقَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا خَيْرَ فِي الْحَيٰوةِ
 بَعْدَكُمْ . ثُمَّ سَارَ نَحْوَ الْعِرَاقِ حَتّٰى اِذَا كَانَ عَلٰى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ
 الْكُوْفَةِ لَقِيَهِ الْحُرُّ بْنُ يَزِيْدَ الرَّيَّاحِيُّ وَمَعَهُ اَلْفٌ فَارِسٍ مِنْ
 اَصْحَابِ ابْنِ زِيَادٍ شَاكِيَ السِّلَاحِ فَقَالَ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 : اِنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ زِيَادٍ قَدْ اَرْسَلَنِي اِلَيْكَ وَاَمَرَنِي اَنْ لَا اُفَارِقَكَ
 حَتّٰى اُقْدِمَ بِكَ اِلَيْهِ وَاَنَا وَاللّٰهِ كَارِهٌ . فَقَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ : اِنِّي لَمْ اُقْدِمُ هَذَا الْبَلَدَ حَتّٰى اَتَيْتَنِي كُتُبُ اَهْلِهِ وَقَدِمْتَ
 عَلَيَّ رُسُلُهُمْ وَاَنْتُمْ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فَاِنْ دُمْتُمْ عَلَيَّ بِيَعْتِكُمْ
 دَخَلْتُ مِصْرَكُمْ وَاِلَّا اَنْصَرَفْتُ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ وَاللّٰهِ مَا اَعْلَمُ هَذِهِ
 الْكُتُبَ وَلَا الرُّسُلَ وَلَا يُمْكِنُنِي الرَّجُوْعُ اِلَى الْكُوْفَةِ فَلَا اُفَارِقُكَ
 اَنْ اُقْدِمَ بِكَ اِلَيْهِ . وَطَالَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا فَاَنْحَرَفَ الْحُسَيْنُ عَنْ
 طَرِيْقِ الْكُوْفَةِ وَنَزَلَ بِكَرْبَلَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةِ
 اِحْدَى وَسِتِّينَ . وَلَمَّا نَزَلَ بِهَا سَأَلَ عَنْ اِسْمِهَا فَقِيْلَ هَذَا

مَوْضِعٌ يُقَالُ لَهُ كَرْبَلَاءُ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ فَنَزَلَ
 الْقَوْمُ وَعَطُّوا الْأَثْقَالَ وَنَزَلَ الْحُرُّ وَجَيْشُهُ قِبَالَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ بِأَرْضِ كَرْبَلَاءٍ ثُمَّ كَتَبَ ابْنُ زِيَادٍ كِتَابًا إِلَى الْحُسَيْنِ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ يُطَالِبُهُ إِلَى بَيْعَةِ يَزِيدَ فَلَمَّا وَرَدَ الْكِتَابُ عَلَى
 الْحُسَيْنِ فَقَرَأَهُ وَالْقَاهُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلرَّسُولِ مَا لَهُ عِنْدِي
 جَوَابٌ فَرَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَجَمَعَ النَّاسُ
 وَجَهَّزَ الْعَسَاكِرُ وَجَعَلَ مُقَدِّمَهَا عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ وَالِيًا عَلَى
 الرَّيِّ فَاسْتَعْفَى مِنْ خُرُوجِهِ إِلَى قِتَالِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ زِيَادٍ
 إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكَ وَلَايَةَ الرَّيِّ وَتَقْعُدَ فِي بَيْتِكَ فَاخْتَارَ
 وَلَايَةَ الرَّيِّ وَطَلَعَ إِلَى قِتَالِ الْحُسَيْنِ بِالْعَسَاكِرِ فَمَا زَالَ ابْنُ
 زِيَادٍ يُجَهِّزُ مُقَدِّمًا وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَنْ اجْتَمَعَ عِنْدَ
 عَمْرُو بْنِ سَعْدٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ أَلْفًا مَا بَيْنَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ فَنَزَلُوا
 بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ وَحَالُوا بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ لِقِتَالِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ هُمُ الَّذِينَ كَاتَبُوا وَبَايَعُوا الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا
 تَيَقَّنَ أَنَّ الْقَوْمَ مُقَاتِلُوهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَاحْتَفَرُوا حُفْرَةً شَبِيهَةً
 بِالْخَنْدَقِ حَوْلَ الْعُسْكَرِ وَجَعَلُوا لَهَا جِهَةً وَاحِدَةً يَكُونُ الْقِتَالُ
 مِنْهَا وَرَكِبَ عَسْكَرُ ابْنِ سَعْدٍ وَأَحْدَقُوا بِالْحُسَيْنِ وَرَحَفُوا

وَاقْتَلُوا وَلَمْ يَزَلْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ
 وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ مَا نَيْفٌ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا
 فَعِنْدَ ذَلِكَ صَاحَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَا مِنْ مُغِيثٍ يُغِيثُنَا
 لِرُوحِهِ اللَّهُ أَمَا مِنْ دَابٍ يَدُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا بِالْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ الرِّيَاحِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرَهُ
 قَدْ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسِهِ إِلَيْهِ وَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَوَّلُ
 مَنْ خَرَجَ عَلَيْكَ وَأَنَا الْآنَ فِي حِزْبِكَ فَمُرْنِي أَنْ أَكُونَ مَقْتُولًا
 فِي نَصْرَتِكَ لَعَلِّي أَنَالَ شَفَاعَةَ جَدِّكَ غَدًا ثُمَّ كَرَّ عَلَى عَسْكَرِ
 عَمْرٍو بْنِ سَعْدٍ فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى قُتِلَ وَقُتِلَ مَعَهُ أَخُوهُ وَابْنُهُ
 وَمَوْلَاهُ أَيْضًا فَالْتَحَمَ الْقِتَالُ حَتَّى قُتِلَ أَصْحَابُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ بِأَسْرِهِمْ وَوَلَدُهُ وَأَخَوَاتُهُ وَبَنُو عَمِّهِ وَبَقِيَ وَحْدَهُ فَبَارَزَ
 بِنَفْسِهِ وَسَيْفُهُ مُصَلَّتٌ فِي يَدِهِ فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ وَيَقْتُلُ مَنْ بَرَزَ إِلَيْهِ
 حَتَّى قَتَلَ مِنْهُمْ الْكَثِيرَ فَانْحَنَتْهُ الْجِرَاهَاتُ وَالسِّهَامُ تَأْتِيهِ مِنْ
 كُلِّ جَانِبٍ وَأَقْبَلَ الشِّمْرُ ذُو الْجَوْشَنِ السَّكُونِيَّ فِي كِتَابَتِهِ
 فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَحْلِهِ وَحَرَمِهِ فَصَاحَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَيَحْكُمُ يَا شَيْعَةَ الشَّيْطَانِ أَنَا الَّذِي أَقَاتِلُكُمْ فَمَا لَكُمْ تَتَعَرَّضُونَ
 لِلْحَرَمِ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَمْ يُقَاتِلْنَكُمْ . فَقَالَ الشِّمْرُ لِأَصْحَابِهِ كُفُّوا
 عَنِ النِّسَاءِ وَأَقْصِدُوا الرَّجُلَ فِي نَفْسِهِ فَمَا لُورًا بِالسِّهَامِ وَالرِّمَاحِ

حَتَّى سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ شَهِيدًا وَجَزَّ رَأْسُهُ نَصْرُ بْنُ خَرِشَةَ فَلَمْ
يَقْدِرْ عَلَى قَطْعِ رَأْسِهِ . فَنَزَلَ حَوْلِيُّ بْنُ يَزِيدَ فَقَطَعَ رَأْسَهُ وَفِي
رِوَايَةٍ فَقَالَ الشَّيْخُ لِأَصْحَابِهِ وَيَلِكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِالرَّجُلِ وَقَدْ
أَثَخَنَتْهُ الْجِرَاهَاتُ فَتَوَالَتْ عَلَيْهِ السِّهَامُ وَالرِّمَاحُ حَتَّى وَصَلَ
سَهْمٌ شَقِيٍّ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ إِلَى حَنَكِهِ فَسَقَطَ عَنِ الْفَرَسِ وَضْرَبَهُ
شِمْرٌ عَلَى وَجْهِهِ فَأَدْرَكَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسِ النَّخَعِيُّ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ
وَنَزَلَ حَوْلِيُّ بْنُ يَزِيدَ لِيَقْطَعَ رَأْسَهُ فَأَرْتَعَدَتْ يَدَاهُ فَنَزَلَ أَخُوهُ
شِبْلُ بْنُ يَزِيدَ فَقَطَعَ رَأْسَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى أَخِيهِ حَوْلِيٍّ . ثُمَّ دَخَلُوا
عَلَى الْحَرَمِ وَأَسْرَوْا اثْنَيْ عَشَرَ غُلَامًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَمَنْ كَانَ
مِنَ النِّسَاءِ وَأَمَرَ عَمْرُ بْنُ سَعْدٍ وَشِمْرٌ نَفْرًا فَرَكِبُوا خِيُولَهُمْ
وَأَوْطَأُوا الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَرْسَلُوا الرَّأْسَ الْمَكْرَمَ مَعَ
بَشِيرِ بْنِ مَالِكٍ وَخَوْلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ . وَاسْتَشْهَدَ مَعَ
الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْعَبَّاسُ وَعُثْمَانُ وَمُحَمَّدٌ
وَعَبْدُ اللَّهِ وَجَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالْقَاسِمُ وَعَبْدُ اللَّهِ
وَعُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ بَنُو الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقُتِلَ مَعَهُ ابْنُ عَلِيٍّ الْأَكْبَرُ
فَإِنَّهُ قَاتَلَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ حَتَّى قُتِلَ وَعَبْدُ اللَّهِ قُتِلَ صَغِيرًا بِكَرْبَلَاءَ
جَاءَهُ سَهْمٌ شَقِيٍّ وَهُوَ فِي حِجْرِ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ وَقُتِلَ مَعَهُ مُحَمَّدٌ
وَعَوْنُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَجَعْفَرُ بْنُ عَقِيلٍ

بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . وَكَانَتْ شَهَادَتُهُمْ
عَاشُورَاءَ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةٌ
وَخَمْسُونَ سَنَةً وَخَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ وَأَمْرَ الشَّقِيِّ ابْنِ
زِيَادٍ بِالرَّأْسِ الْمُكْرَمِ فَدِيرَ بِهِ فِي سِكَكِ الْكُوفَةِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ مَعَ
رُؤُوسِ سَائِرِ الشُّهَدَاءِ وَسَبَايَا أَهْلِ الْبَيْتِ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ
مَعَ شِمْرِ ذِي الْجَوْشَنِ وَكَانَ بِدِمَشْقَ ثُمَّ وَجَّهَ ذُرِّيَّةَ الْحُسَيْنِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأْسَهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَى الْمَدِينَةِ . إِنَّا لِلَّهِ
وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وَأَمَّا إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْوَاقِعَةِ
الْهَائِلَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ بِوَاسِطَةِ جَبْرِئِلَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .
فَمَشْهُورٌ مُتَوَاتِرٌ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَالطَّبْرَانِيُّ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرِئِلُ أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِي بِأَرْضِ الطَّفِّ
وَجَاءَ نِيَّ بِهَذِهِ التُّرْبَةِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا مَضْجَعُهُ
﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الكبير (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107 -

- مجمع الزوائد (ہیثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 188 -

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 123 -

- اسنی المطالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33-

- فیض القدير (مناوی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264-

- سبل الھدی والرشاد (صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73- ﴿

وَمِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ
الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جَبْرِيْلُ
فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُنِي هَذَا يَعْنِي الْحُسَيْنَ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ
مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَاءَ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194-

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 368-

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 197-

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258-

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 123-

- سبل الھدی والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154- ﴿

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلِكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا فَقَالَ لِي : إِنَّ
ابْنَكَ هَذَا يَعْنِي حُسَيْنًا مَقْتُولٌ إِنْ شِئْتَ أَرَيْتَكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ
الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا فَأَخْرَجَ حَمْرَاءَ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 194 -

- فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 770 -

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193 -

- مجمع الزوائد (بیہقی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 301 -

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 104 -

- السلسلة الصحیحة (البانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 465 - ﴿

وَ أَخْرَجَ الْبَغْوِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ مَلِكُ الْمَطَرِ رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِإِهِ وَسَلَّمَ فَأُذِنَ لَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ
أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ احْفَظِي عَلَيْنَا الْبَابَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ
فَبَيْنَا هِيَ عَلَى الْبَابِ إِذْ دَخَلَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاقْتَحَمَ
فَوَثَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِإِهِ وَسَلَّمَ يَلْثِمُهُ وَيَقْبَلُهُ فَقَالَ لَهُ
الْمَلِكُ أَتُحِبُّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ
أُرِيكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ بِهِ. فَارَاهُ فَجَاءَ بِسَهْلَةٍ أَوْ تُرَابٍ
أَحْمَرَ فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْبِهَا قَالَ ثَابِتٌ كُنَّا نَقُولُ
إِنَّهَا كَرَبَلَاءُ.

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 369۔

- التذکرہ (قرطبی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 643۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154۔ ﴿

وَ أَخْرَجَهُ أَيْضاً أَبُو حَاتِمٍ فِي صَحِيحِهِ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ
أَحْمَدَ فِي زِيَادَةِ الْمُسْنَدِ قَالَ ثُمَّ نَاوَلَنِي كَفًّا مِنْ تُرَابٍ أَحْمَرَ.
﴿تخریج برکاتی﴾

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 147۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154۔

- سمط النجوم العوالیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ
قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا
بِالْحُسَيْنِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ حَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتُهُ فَإِذَا عَيْنَا
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تُهْرِيقَانِ مِنَ الدَّمُوعِ
فَقَالَ : آتَانِي جَبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي تَقْتُلُ ابْنِي هَذَا وَآتَانِي
بِتُرْبَةٍ مِنْ تَرْبَتِهِ حَمْرَاءَ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 368۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 197۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ ابْنَ رَاهُوِيَهَ وَالْبَيْهَقِيَّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنِ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اضْطَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ
فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ خَائِرٌ وَفِي يَدِهِ تُرْبَةٌ حَمْرَاءُ يُقَلِّبُهَا قُلْتُ مَا هَذِهِ
التُّرْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرِيلُ أَنَّ هَذَا يَعْنِي الْحُسَيْنَ
يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَهَذِهِ تُرْبَتُهَا .

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 + جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 308۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 367۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 191۔

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن علی متقی) صفحہ نمبر 148۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 289۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257۔

- کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 154۔ ﴿

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ مَلِكُ
الْمَطَرِ رَبَّهُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ الْحُسَيْنُ فَجَعَلَ
يَقَعُ عَلَى مَنْكِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَلِكُ
أُحِبُّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ : فَإِنَّ أُمَّتَكَ
تَقْتُلُهُ وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتَكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ
فَأَرَاهُ تُرَابًا أَحْمَرَ فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلْمَةَ فَصَرَّتْهُ فَنِي ثَوْبَهَا فَكُنَّا نَسْمَعُ
أَنَّهُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَاءِ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 265۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 369۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257 + صفحہ نمبر 216۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 658۔ ﴿

وَأَخْرَجَ أَبُو نَعِيمٍ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَسَنُ

وَالْحُسَيْنُ يُلْعَبَانِ فِي بَيْتِي فَنَزَلَ جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أُمَّتَكَ
تَقْتُلُ ابْنَكَ هَذَا مِنْ بَعْدِكَ وَأَوْمِي إِلَى الْحُسَيْنِ وَأَتَاهُ بِتُرْبَةٍ
فَشَمَّهَا ثُمَّ قَالَ رِيحُ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ وَقَالَ يَا أُمَّ سَلْمَةَ إِذَا تَحَوَّلَتْ
هَذِهِ التُّرْبَةُ دَمًا فَأَعْلِمِي أَنَّ ابْنِي قَدْ قُتِلَ فَجَعَلْتُهَا فِي قَارُورَةٍ .

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 108 -

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193 -

۔ مجمع الزوائد (بیہقی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 303 -

۔ تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 409 -

۔ تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 -

۔ الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191 -

۔ بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 - ﴿

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَسَنِ قَالَ
كُنَّا مَعَ الْحُسَيْنِ بِنَهْرٍ كَرَبَلَاءَ فَنَظَرَ إِلَى الشِّمْرِ ذِي الْجَوْشَنِ
فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى كَلْبٍ أَبْقَعَ يَلِغُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَكَانَ شِمْرٌ
أَبْرَصٌ .

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ ابن عساکر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 190 + جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 16 -

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 128۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ ابْنَ السَّكَنِ وَالْبَغَوِيُّ فِي الصَّحَابَةِ وَأَبُو نَعِيمٍ مِنْ طَرِيقِ سُحَيْمٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا يُقْتَلُ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَاءُ فَمَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْهُ . فَخَرَجَ أَنَسُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَى كَرْبَلَاءَ فَقُتِلَ بِهَا مَعَ الْحُسَيْنِ . ﴿ تَخْرُجُ بَرَكَاتِي :

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 224۔

- الاصابہ فی تمییز الصحابہ (عسقلانی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 217۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 126۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (سیوطی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 75۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الْحُسَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَبْرِيلُ فِي مِشْرَبَةٍ عَائِشَةَ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ سَتَقْتُلُ أُمَّتَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِالْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا وَأَشَارَ جَبْرِيلُ بِيَدِهِ إِلَى

الطِّفِّ بِالْعِرَاقِ فَأَخَذَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ فَأَرَاهُ أَيَّاهَا .
﴿تخریج برکاتی﴾

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 370 -

- الخصاص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 - ﴿

وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْخَرِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ
مَوْصُولًا .

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ
الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْحُسَيْنَ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَحِقَهُ فِي
مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ مِنَ الرَّبْدَةِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرَ نَبِيٍّ بَيْنَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَخْتَارَ الْآخِرَةَ وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا وَإِنَّكُمْ بَضَعْتُمْ مِنْهُ
وَاللَّهِ لَا يَلِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَدًا وَمَا صَرَفَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ إِلَّا
لِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَارْجِعُوا . فَأَبَى فَاغْتَنَقَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ:
أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَتِيلٍ .
﴿تخریج برکاتی﴾

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 371 -

- سنن کبریٰ (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100 -

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 202 -

- معجم ابن الاعرابی جلد حدیث نمبر 2346 -

- العزلة للخطابی حدیث نمبر 25۔

- احیاء العلوم الدین (غزالی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔

- عیون الاخبار (ابن قتیبہ) صفحہ نمبر 91۔

- بغیة الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 259۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔

- خلاصة الاثر (الحی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193۔

- الاعلام للزرکلی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14۔

- سبل الہدی والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 78۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا كُنَّا نَشْكُ وَأَهْلُ
الْبَيْتِ مُتَوَافِرُونَ أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِالطَّفِّ .
﴿ تخریج برکاتی :

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ يَحْيَى الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ عَلِيِّ
إِلَى صِفِّينَ فَلَمَّا حَازَى نَيْنَوِي نَادَى صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشَطِّ
الْفُرَاتِ . قُلْتُ مَاذَا؟ . قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي جَبْرِيلُ : إِنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ

وَأَرَانِي قَبْضَةً مِّنْ تَرْبِيَّتِهِ .

﴿تخریج برکاتی﴾

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85۔

- مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 478۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 173۔

- مسند ابی یعلیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 187۔

- الاحادیث المختارہ (ضیاء مقدسی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375۔

- اتحاف الخیرة المکرمه جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90۔

- مسند البزار حدیث نمبر 884۔ (مسند علی)۔

- التبصرة (ابن جوزی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔

- تهذيب الكمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241۔

- تهذيب التهذيب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300۔

- سیر اعلام النبلا (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 288۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 192۔

- سبل الهدی والرشاد (سیوطی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 74۔

وَأَخْرَجَ أَبُو نَعِيمٍ عَنْ أَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَيْنَا مَعَ عَلِيٍّ

عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَقَالَ: هُنَا مَنَاخُ
رَكَابِهِمْ وَمَوْضِعُ رِحَالِهِمْ وَمِهْرَاقُ دِمَائِهِمْ فِئَةٌ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ
يَقْتُلُونَ بِهَذِهِ الْعَرَصَةِ تَبْكِي عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ .
﴿تخریج برکاتی﴾

- اتحاف الخيرة المحرره جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9-

- المطالب العالیہ (عسقلانی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 449-

- ذخائر العقبی (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 97-

- انحصار نص الکبری (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192- ﴿

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ: إِنِّي قَتَلْتُ بِيحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا سَبْعِينَ أَلْفًا وَإِنِّي قَاتِلُ يَابْنَ
بِنْتِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَ سَبْعِينَ أَلْفًا .
﴿تخریج برکاتی﴾

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 648-

- تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 219-

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 225-

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 342-

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 431-

- لسان المیزان (عسقلانی) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 457-

- میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368-

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 219-

- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142-

- تفسیر درمنثور (سیوطی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 492-

- کنز العمال (علی متقی) جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 127-

- مقاصد حسنة (سخاوی) صفحہ نمبر 484-

- کشف الخفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98-

- ذخائر العقبی (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 150-

- سبل الہدی والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 81-

- انصاف الکبری (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192- ﴿

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ
ذَاتَ يَوْمٍ نِصْفَ النَّهَارِ أَشَعَتْ أَغْبَرَ بِيَدِهِ قَارُورَةً فِيهَا دَمٌ فَقُلْتُ:
مَا هَذِهِ قَالَ: دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ
فَأَحْصَيْتُ ذَلِكَ الْوَقْتَ فَوَجَدْتُ قَدْ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمُ .
﴿ تخریج برکاتی:

- مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283-

- فضائل الصحابة (احمد بن حنبل) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 779-

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110-

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 372۔

- اتحاف الخیرة المہرۃ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 90۔

- اسد الغابہ (ابن اثیر) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266۔

- تاریخ بغداد (خطیب بغدادی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔

- الاصابہ فی تمييز الصحابة (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 258۔

- فیض القدر (مناوی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔

- ذخائر العقبی (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 148۔

- الاستیعاب فی معرفة الاصحاب (ابن العدیم) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 182۔ ﴿

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَعَلَى رَأْسِهِ
وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ قَدْ شَهِدْتُ
قَتْلَ الْحُسَيْنِ إِنْفًا -
﴿تخریج برکاتی﴾

- سنن ترمذی ابواب المناقب باب مناقب الحسن والحسین۔

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 373۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 95۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 20-

- التاريخ الكبير (امام بخاری) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324-

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 238-

- اسد الغابہ (ابن اثیر) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316--

- جامع الاصول (ابن اثیر) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6567-

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219-

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71-

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 75-

- انحصار الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193-

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182-

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) صفحہ نمبر 148-

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316-

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 439- ﴿

وَ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ بَصْرَةَ الْأَزْدِيَّةِ قَالَتْ : لَمَّا

قُتِلَ الْحُسَيْنُ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا فَأَصْبَحْنَا وَجِبَابُنَا وَجِرَارُنَا

وَ كُلُّ شَيْءٍ لَنَا مَلَانٌ دَمًا .

﴿ تخریج برکاتی :

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 373-

- الثقات (ابن حبان) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 487-

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 227۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 433۔

- انھما نص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ

يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ لَمْ يُقَلَّبْ حَجْرًا مِنْ أَحْجَارِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَّا

وَجَدَ تَحْتَهُ دَمًا عَبِيطًا .

﴿ تخریج برکاتی :

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 113۔

- المستدرک (حاکم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155۔

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 374۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 229۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314۔

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔

- سمط النجوم العوالیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔

- الخصاص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- تاریخ الخلفاء (سیوطی) صفحہ نمبر 182۔ ﴿

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ حَبَّانٍ قَالَتْ : يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ
أَظْلَمْتُ عَلَيْنَا ثَلَاثًا وَلَمْ يَمَسَّ مِنَّا أَحَدٌ مِنْ زَعْفَرَانِهِمْ شَيْئًا يَجْعَلُهُ
عَلَى وَجْهِهِ إِلَّا احْتَرَقَ وَلَمْ يُقْلَبْ حَجْرُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ إِلَّا وَجَدَ
تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيطٌ .

﴿ تخریج برکاتی :

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 229۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434۔

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40۔ ﴿

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ : أَصَابُوا إِبِلًا فِي
عَسْكَرِ الْحُسَيْنِ يَوْمَ قُتِلَ فَنَحَرُوهَا وَطَبَخُوهَا فَصَارَتْ مِثْلَ
الْعَلَقِمِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُسِغُوا مِنْهَا شَيْئًا .

﴿ تخریج برکاتی :

- دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 377۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 231۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 435۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231۔

بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43۔ ﴿

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي
قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ الْوَرَسَ عَادَ رَمَادًا وَلَقَدْ رَأَيْتُ اللَّحْمَ كَانَ فِيهِ
النَّارَ حِينَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ .

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 376۔

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 230۔

۔ بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42۔

۔ المعرفۃ والتاریخ (فسوی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31۔

۔ تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 16۔

۔ سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 313۔

۔ الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ ﴿

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي
قَالَتْ كُنْتُ أَيَّامَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ جَارِيَةً شَابَةً فَكَانَتْ السَّمَاءُ أَيَّامًا
تَبْكِي لَهُ .

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ دلائل النبوة (بیہقی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 375۔

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 226۔

۔ الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ شَهِدَ
رَجُلَانِ قَتْلَ الْحُسَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَطَالَ ذَكَرَهُ حَتَّى كَانَ يَلْفُهُ
وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَسْتَقْبِلُ الرَّأْيَةَ بِفِيهِ حَتَّى يَأْتِي عَلَى آخِرِهَا
فَمَا يَرَوِي .

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119۔

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 234۔

- مجمع الزوائد (ہاشمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 317۔

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 438۔

- سیر اعلام النبلاء (ذہبی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314۔

- تہذیب التہذیب (عسقلانی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 306۔

- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (ملا علی قاری) باب الاستعاذۃ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 384۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 32۔

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 317۔ ﴿

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْجَنَّةَ

تَنُوحُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَهِيَ تَقُولُ شعر

مَسَحَ النَّبِيُّ جَبِينَهُ فَلَهُ رِيْقٌ فِي الْخُدُودِ

أَبَوَاهُ فِي عَلِيَا قُرَيْشٍ وَجَدَّهُ خَيْرُ الْجُدُودِ

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔

۔ التدوین فی اخبار قزوین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔

۔ التبصرہ (ابن جوزی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9۔

۔ الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔

۔ آکام المرجان فی احکام الجان (شبلی) صفحہ نمبر 176۔ ﴿

وَ أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ : مَا سَمِعْتُ نَوْحَ الْجِنِّ مِنْذُ قُبُضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّيْلَةَ وَمَا أَرَى ابْنِي إِلَّا قَدْ قُتِلَ تَعْنِي الْحُسَيْنَ
فَقَالَتْ لِجَارِيَّتِهَا : أَخْرِجِي فَاَسْئَلِي فَأَخْبَرْتُ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ . وَإِذَا
الْجِنَّةُ تَنُوحُ

شعر

أَلَا يَا عَيْنُ فَأَيْتَهَلِي بِجُهْدٍ
وَمَنْ يَكِي عَلَى الشُّهَدَاءِ بَعْدِي
عَلَى رَهْطٍ تَقُودُهُمُ الْمَنَايَا
إِلَى مُتَجَبَّرٍ فِي مُلْكِ عَهْدِي

﴿تخریج برکاتی﴾

۔ المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133۔

۔ ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 241۔

۔ مجمع الزوائد (بیہقی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 321۔

۔ تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 441۔

- بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب (ابن العدیم) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47۔

- سل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76۔

- الامالی الشجر یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144۔ ﴿

وَآخَرَ جَابِرِ بْنِ جَابِرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أُمِّهِ

قَالَتْ سَمِعْتُ الْجَنَّةَ تَنُوحُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَهِيَ تَقُولُ

شعر

أَنْعَى حُسَيْنًا هَبْلًا كَانَ حُسَيْنًا جَبَلًا

﴿تخریج برکاتی﴾

- معرفۃ الصحابہ (ابو نعیم) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 334۔

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194۔

- سل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76۔ ﴿

وَآخَرَ جَابِرِ ابْنِ عَسَاكِرُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ أَنَا

وَاللَّهِ رَأَيْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ حُمِلَ وَأَنَا بِدِمَشْقَ وَبَيْنَ يَدَيِ الرَّأْسِ

رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالَى أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ

أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا فَانطَقَ اللَّهُ

الرَّأْسَ بِلِسَانٍ ذَرِبٍ فَقَالَ أَعْجَبٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتَلِي

وَحَمَلِي .

﴿تخریج برکاتی﴾

- ابن عساکر جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 370-

- شرح الصدور (سیوطی) صفحہ نمبر 88-

- الخصائص الکبریٰ (سیوطی) جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194-

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76- ﴿

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ بْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي قُنْبُلٍ قَالَ:

لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ اجْتَزَوْا رَأْسَهُ وَقَعَدُوا فِي أَوَّلِ مَرْحَلَةٍ يَشْرَبُونَ

النَّبِيْدَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ قَلَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَكَتَبَ سَطْرًا بِدَمِ

شعر

اترُجُوْ اُمَّةٌ قَتَلَتْ حُسَيْنًا شَفَاعَةَ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

﴿تخریج برکاتی﴾

- المعجم الکبیر (طبرانی) جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123-

- مجمع الزوائد (یثمی) جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 320-

- ابن عساکر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 243-

- تہذیب الکمال (مزی) جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 443-

- تاریخ اسلام (ذہبی) جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107-

- البدایہ والنہایہ (ابن کثیر) جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 218-

- ذخائر العقبیٰ (احمد بن عبداللہ طبری) جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145-

- سبل الہدیٰ والرشاد (یوسف صالحی) جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 76-

- ذیل تاریخ بغداد (ابن نجار) جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195- ﴿

ماخذ و مراجع

قرآن مجید

- جامع معتمر بن راشد از ابو عمرو معتمر بن راشد
متوفی 152ھ
- موطا امام محمد از ابو عبد اللہ محمد بن حسن شیبانی
متوفی 189ھ
- مسند ابی داؤد طیالسی از سلیمان بن داؤد طیالسی
متوفی 204ھ
- مصنف عبدالرزاق از عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی
متوفی 211ھ
- مصنف ابن ابی شیبہ از ابو بکر عبد اللہ بن ابن ابی شیبہ
متوفی 235ھ
- مسند اسحاق بن راہویہ از اسحاق بن ابراہیم بن مخلد مروزی
متوفی 238ھ
- مسند امام احمد بن حنبل از ابو عبد اللہ احمد بن حنبل
متوفی 241ھ
- فضائل الصحابة از ابو عبد اللہ احمد بن حنبل
متوفی 241ھ
- صحیح بخاری از ابو عبد اللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری
متوفی 256ھ
- التاریخ الکبیر از ابو عبد اللہ امام محمد بن اسماعیل بخاری
متوفی 256ھ
- سنن ابن ماجہ از محمد بن یزید قزوینی ابن ماجہ
متوفی 273ھ
- عیون الاخبار از ابو محمد عبد اللہ بن مسلم ابن قتیبہ الدینوری
متوفی 276ھ
- جامع ترمذی از ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی
متوفی 279ھ
- مسند البزار از ابو بکر احمد بن عمرو البزار
متوفی 292ھ
- سنن نسائی (کبریٰ) از احمد بن شعیب نسائی
متوفی 303ھ
- تاریخ طبری از ابو جعفر محمد ابن جریر طبری
متوفی 310ھ
- مشکل الآثار ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی
متوفی 321ھ

- معجم ابن الاعرابی از ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد ابن اعرابی متوفی 340ھ
- المعرفة والتاریخ از ابو یوسف یعقوب بن سفیان فسوی متوفی 347ھ
- اخبار مکہ از ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن العباس فاکہی متوفی 353ھ
- صحیح ابن حبان از حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التمیمی متوفی 354ھ
- کتاب الثقات از حافظ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد التمیمی متوفی 354ھ
- المعجم الکبیر از حافظ سلیمان بن احمد طبرانی متوفی 360ھ
- الکامل از ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی متوفی 365ھ
- شرح مذاہب اہل السنۃ از ابو حفص عمر بن احمد ابن شاہین متوفی 385ھ
- العزلة للخطابی از ابو سلیمان حمد بن محمد المعروف خطابی متوفی 388ھ
- المستدرک از محمد بن عبد اللہ الحاکم نیشاپوری متوفی 405ھ
- حلیۃ الاولیاء از حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی 430ھ
- معرفة الصحابة از حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی 430ھ
- فضائل الخلفاء الراشدین از حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی متوفی 430ھ
- دلائل النبوة از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- سنن کبریٰ از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- شعب الایمان از احمد بن حسین بیہقی متوفی 458ھ
- الاستیعاب فی معرفة الاصحاب از یوسف بن عبد اللہ المعروف ابن عبد البر متوفی 463ھ
- امالی الشجرية از ابن شجرى متوفی 499ھ
- احیاء علوم الدین از ابو حامد محمد بن غزالی متوفی 505ھ
- فردوس الاخبار از شیروویہ بن شہر دار بن شیروویہ دیلمی متوفی 509ھ
- ربیع الابرار از ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد مختاری متوفی 538ھ

- کتاب الشفاء از قاضی ابوالفضل عیاض متوفی 544ھ
- تاریخ مدینہ دمشق از ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عساکر متوفی 571ھ
- التبصرہ از ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابن جوزی متوفی 597ھ
- صفة الصفوة از ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابن جوزی متوفی 597ھ
- اسد الغابہ از مجد الدین المبارک بن محمد الشیبانی ابن اثیر جزری متوفی 606ھ
- جامع الاصول از مجد الدین المبارک بن محمد الشیبانی ابن اثیر جزری متوفی 606ھ
- الکامل فی التاريخ از مجد الدین المبارک بن محمد الشیبانی ابن اثیر جزری متوفی 606ھ
- التدوین فی اخبار قزوین از عبدالکریم بن محمد الرافعی متوفی 623ھ
- ذیل تاریخ بغداد از ابو عبداللہ محمد بن محمود المعروف ابن نجار متوفی 643ھ
- الاحادیث المختارة از ضیاء محمد بن عبدالواحد مقدسی متوفی 643ھ
- بغیة الطلب فی تاریخ حلب از عمر بن قاضی احمد بن ہبہ اللہ بن العدیم متوفی 660ھ
- التذکرۃ از ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی 668ھ
- تہذیب الاسماء از ابو زکریا محیی الدین بن شرف نووی متوفی 676ھ
- وفیات العیان از احمد بن محمد بن ابراہیم بن ابی بکر ابن خلکان متوفی 681ھ
- الریاض النضرۃ از احمد بن عبداللہ محبت الدین طبری متوفی 694ھ
- ذخائر العقبی از احمد بن عبداللہ محبت الدین طبری متوفی 694ھ
- تہذیب الکمال از یوسف بن ذکی عبدالرحمن ابوالحجاج المزنی متوفی 742ھ
- تاریخ بغداد از ولی الدین خطیب تبریزی متوفی 742ھ
- سیر اعلام النبلاء از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متوفی 748ھ
- تاریخ اسلام از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی متوفی 748ھ
- الوفائی بالوفیات از صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی متوفی 764ھ

- آکام المرجان فی احکام الجان از محمد بن عبداللہ الشبلی متوفی 769ھ
- البدلیۃ والنہایۃ ابوالفداء عماد الدین بن عمر بن کثیر متوفی 774ھ
- الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ از احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- فتح الباری از احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- تہذیب التہذیب از احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852ھ
- مجمع الزوائد از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر بیہقی متوفی 807ھ
- البحر الزخار شرح مسند البزازی از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر بیہقی متوفی 807ھ
- موارد النظمان الی زوائد ابن حبان از حافظ نور الدین علی بن ابوبکر بیہقی متوفی 807ھ
- تاریخ ابن خلدون از عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون متوفی 808ھ
- حیوۃ الحیوان الکبریٰ از کمال الدین محمد بن عیسیٰ دیمیری متوفی 808ھ
- اتحاف الخیرۃ لمہرۃ احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بوسیری متوفی 840ھ
- الخصائص الکبریٰ از جلال الدین عبدالرحمن ابی بکر السیوطی متوفی 911ھ
- تاریخ الخلفاء از جلال الدین عبدالرحمن ابی بکر السیوطی متوفی 911ھ
- تفسیر درمنثور از جلال الدین عبدالرحمن ابی بکر السیوطی متوفی 911ھ
- شرح الصدور از جلال الدین عبدالرحمن ابی بکر السیوطی متوفی 911ھ
- الصواعق المحرقة از جلال الدین عبدالرحمن ابی بکر السیوطی متوفی 911ھ
- اسنی المطالب از ابویحییٰ زکریا الانصاری متوفی 926ھ
- سبل الہدیٰ والرشاد از محمد بن یوسف صالحی شامی متوفی 942ھ
- کنز العمال از علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری متوفی 985ھ
- مرقاۃ شرح مشکوٰۃ علامہ نور الدین علی بن سلطان قاری متوفی 1014ھ
- فیض القدر از محمد زین الدین المدعو عبدالرؤف مناوی متوفی 1030ھ

- سمط النجوم العوالی از عبدالملک بن حسین بن عبدالملک العصامی متوفی 1111ھ
- کشف الخفاء از اسماعیل بن محمد العجلونی متوفی 1162ھ
- خلاصۃ الاثر از محمد امین بن فضل اللہ بن محبت اللہ الحنفی متوفی 1111ھ
- السلسلۃ الصحیحۃ از ناصر الدین البانی متوفی 1420ھ
- الاعلام از خیر الدین الزرکلی

حضرت مولانا محمد احمد برکاتی صاحب کی مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتب

- ☆ لمعاتِ مصطفیٰ ﷺ
- ☆ شبِ برات کے فضائل و دلائل
- ☆ وہ جو مر کے پھر زندہ ہوئے
- ☆ رشتہ دارانِ مصطفیٰ ﷺ کی قربانیاں
- ☆ حضور ﷺ کے معجزے
- ☆ خاندانِ نبوت
- ☆ اللہ و رسولہ اعلم
- ☆ زندوں مردوں کا لین دین
- ☆ خواتین کی محافل



ابوالحجاز مؤرخ محسن احمد بیگانی

کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ کتب

لمعاتِ مصطفیٰ ﷺ

اللہ ورسولہ اعلم

حضور ﷺ کے معجزے

رشتہ داران

خاندانِ نبوت

زندوں مردوں کا لین دین

مصطفیٰ ﷺ کی قربانیاں

شبِ برات
کے فضائل و دلائل

۷۰ جو مرنے کے بعد
زندہ ہوئے

خواتین کی
مخاطب

نورینہ رضویہ پبلی کیشنز



042-3733005, 3737330

www.nurainarazvi.com